

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

الحمد لله والمنة كه كتاب نافع طلاب شتى بر فوائد نحويه

موسوم به

# العلامات النحوية

في

## حل تراكيب العربية

تأليف

العبالضعيف محمد حسن عفاللذعنه  
فاضل جامعه اشرفيه لاهور واستاذ جامعه محمدية ليك روؤلاهور

پښتو ترجمه

العبالضعيف مولانا اكرام اللذعفاللذعنه

مکتبہ درجانیہ

علا علی مقب قسہ خالی بازار پشاور سہاں 0336-3100065



تمام فنون کے کتب کے پی-ڈی-ایف ہمارے ویب سائٹ سے اور پلے سٹور سے فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس میں مزید کتب شامل کر رہے ہیں اس لیے آپ ہفتے میں ایک بار ضرور ہمارے پلے سٹور اور ویب سائٹ کو چیک کیا کریں۔

## ابھی مطلوبہ پی-ڈی-ایف مفت ڈاؤن لوڈ کریں

|             |       |            |
|-------------|-------|------------|
| منطق        | خطبات | تفاسیر     |
| معانی       | سیرت  | احیث       |
| تصوف        | تاریخ | فقہ        |
| تقابل ادیان | صرف   | سوانح حیات |
| تجوید       | نحو   | درس نظامی  |
| نعت         | فلسفہ | لغت        |
| تراجم       | حکمت  | فتاوی      |
| تبلغ و دعوت | بلاغت | اصلاحی     |
| تمام فنون   |       |            |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

# الْعَلَامَاتُ الْمُنَوَّرَةُ فِي حَلِّ تَرَكيبِ الْعَرَبِيَّةِ

## تأليف

العبد الضعيف محمد حسن عفي الله عنه وعافاه  
فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور و استاذ جامعہ محمدیہ  
لیک روڈ لاہور .

پینتو ترجمہ :-

العبد الضعيف مولانا اكرام الله عفي الله عنه وعن والديه  
فاضل جامعہ امداد العلوم پشاور صدر و فاضل وفاق  
المدارس (ملتان)

ناشر :-

مکتبہ رحمانیہ - محلہ جنکی - قصہ خوانی پینتو .

## جملہ حقوق محفوظ دی

- د کتاب نوم : العلامات النحویہ .
- تالیف اردو : مولانا محمد حسن صاحب .
- پبلیشمنٹ ترجمہ : مولانا اکرام اللہ صاحب .
- کتابت : سیّد عبدالقیوم حق دوست افغانی .
- ناشر : مکتبہ رحمانیہ - محلہ جنکی پینبوسا .

سائز :  $\frac{20 \times 30}{8}$

تعداد صفحات :


ہدیہ :

تصحیح و نظر ثانی : مولانا عبد الوافی بن عبد الباقی الافغانی حصارک، مذینہ  
فاضل جامعہ امداد العلوم پینبوسا :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام نظریں کو اطلاعاً عرض ہے کہ کتاب العلامات النحویہ کے سبقتوں سے پہلے کرنے  
اور اسے نئے نئے کی اجازت صرف اور صرف مکتبہ رحمانیہ شاور کو حاصل ہے۔  
لہذا کسی دوسرے مکتبہ کو اس کی ترقیب کرنے اور چھپوانے کی اجازت نہیں۔

مکتبہ رحمانیہ شاور  
پینبوسا  
۱۳۲۱ھ



خپل خوبز

جل جلاله وعم نواله

الله

په نامه کومه

دا ټول څه زما د خوبز مولی په فضل و کرم او عنایت سره دی .

## فہرست مضامین کتاب ہذا .

| صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر | صفحہ نمبر |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ۱         | ۲         | ۴         | ۴         | ۴         | ۴         | ۴         | ۴         | ۴         | ۴         |
| ۲         | ۴         | ۶         | ۶         | ۶         | ۶         | ۶         | ۶         | ۶         | ۶         |
| ۳         | ۱۰        | ۲۳        | ۲۳        | ۲۳        | ۲۳        | ۲۳        | ۲۳        | ۲۳        | ۲۳        |
| ۴         | ۱۴        | ۲۵        | ۲۵        | ۲۵        | ۲۵        | ۲۵        | ۲۵        | ۲۵        | ۲۵        |
| ۵         | ۲۰        | ۲۶        | ۲۶        | ۲۶        | ۲۶        | ۲۶        | ۲۶        | ۲۶        | ۲۶        |
| ۶         | ۲۳        | ۲۷        | ۲۷        | ۲۷        | ۲۷        | ۲۷        | ۲۷        | ۲۷        | ۲۷        |
| ۷         | ۲۳        | ۲۸        | ۲۸        | ۲۸        | ۲۸        | ۲۸        | ۲۸        | ۲۸        | ۲۸        |
| ۸         | ۲۷        | ۲۹        | ۲۹        | ۲۹        | ۲۹        | ۲۹        | ۲۹        | ۲۹        | ۲۹        |
| ۹         | ۲۸        | ۳۰        | ۳۰        | ۳۰        | ۳۰        | ۳۰        | ۳۰        | ۳۰        | ۳۰        |
| ۱۰        | ۳۹        | ۳۱        | ۳۱        | ۳۱        | ۳۱        | ۳۱        | ۳۱        | ۳۱        | ۳۱        |
| ۱۱        | .         | ۳۲        | ۳۲        | ۳۲        | ۳۲        | ۳۲        | ۳۲        | ۳۲        | ۳۲        |
| ۱۲        | ۵۰        | ۳۳        | ۳۳        | ۳۳        | ۳۳        | ۳۳        | ۳۳        | ۳۳        | ۳۳        |
| ۱۳        | ۵۳        | ۳۴        | ۳۴        | ۳۴        | ۳۴        | ۳۴        | ۳۴        | ۳۴        | ۳۴        |
| ۱۴        | ۵۵        | ۳۵        | ۳۵        | ۳۵        | ۳۵        | ۳۵        | ۳۵        | ۳۵        | ۳۵        |
| ۱۵        | ۶۱        | ۳۶        | ۳۶        | ۳۶        | ۳۶        | ۳۶        | ۳۶        | ۳۶        | ۳۶        |
| ۱۶        | ۶۳        | ۳۷        | ۳۷        | ۳۷        | ۳۷        | ۳۷        | ۳۷        | ۳۷        | ۳۷        |
| ۱۷        | ۶۵        | ۳۸        | ۳۸        | ۳۸        | ۳۸        | ۳۸        | ۳۸        | ۳۸        | ۳۸        |
| ۱۸        | ۶۶        | ۳۹        | ۳۹        | ۳۹        | ۳۹        | ۳۹        | ۳۹        | ۳۹        | ۳۹        |
| ۱۹        | ۶۷        | ۴۰        | ۴۰        | ۴۰        | ۴۰        | ۴۰        | ۴۰        | ۴۰        | ۴۰        |
| ۲۰        | ۶۹        | ۴۱        | ۴۱        | ۴۱        | ۴۱        | ۴۱        | ۴۱        | ۴۱        | ۴۱        |
| ۲۱        | ۷۱        | ۴۲        | ۴۲        | ۴۲        | ۴۲        | ۴۲        | ۴۲        | ۴۲        | ۴۲        |
| ۲۲        | ۷۶        | ۴۳        | ۴۳        | ۴۳        | ۴۳        | ۴۳        | ۴۳        | ۴۳        | ۴۳        |



## سرگزشت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی -

اما بعد! بنده خالص دے اللہ تعالیٰ پہ فضل اوکرم سره د شعبان په میاشت کینے د خوکالو راسے دخپلو کراتو طالبانود پاره د «دوره حل عبارت» په نوم سره د یوه سلسله شروع اوکړه ددے دورے نه مقصد دا وو۔ چه دخپلو کراتو طالبانود عبارت او مطالعے په باره کینے چه کومه پریشانی ده۔ هغه د خه حده پوره ختمه کړه شی۔ ښکاره خبره ده۔ چه د عبارت کمزورۍ لریه کولو د پاره د دوو څیزونو ضرورت وی۔ اول دا چه د عربی د صیغو شناخت وی، دویمه دا چه د اعراب او د بناء شناخت وی۔ هرکله چه د صیغو پیژندل موقوف وو په پیژندلو د علم صرف باندے، او دا رنگ پیژندل د اعرابو او بناء موقوف وو په پیژندلو د علم نحو باندے۔ نو په دے وجه د اللہ تعالیٰ په فضل سره د دورے ترتیب دا کینودے شو چه په رومبی هفته کینے به صرف وی، او دویمه هفته کینے به نحو وی۔ او په دریمه هفته کینے به د عربی عبارت کینے دغه د صرف او نحو د مسائلو اجراء وی۔ بیا هغه نه پس به هغوئے نه د عربی عبارت اوریدلے شی او سره د معنی او مطلب نه به په هغوئے باندے حل کولے شی۔ الحمد للہ! په دے طرز سره بنده ته هم معلومه شوه۔ او زما کراتو طالبانوته هم۔ تردے چه درجه ثلاثه طالبانو مشکوه شریفته او درجه رابعه طالبانو شامی ته او بعضے طالبانو الا شباه والنظائر نه او بعضو متن متین او د عبد الغفور مقامات حل کړه۔ او اورولے اوکړه ددے نه پس بعضو ملکو دخپلونیو کوجذبو اظهار دا رنگ اوکړو۔ چه موبن مخکینے نه، د درسی کتابونو حل کولو د پاره د اردو شره اختی وے۔ لیکن اوس به موبن د عربی شره اخلو۔ ددے فائدے په وجه سره د بنده هم دا خواهش وو۔ او ورسره د طالبانو او د بعضو مخلصانو دوستانو استاذانو هم اصرار کولو چه د صرف او نحو هغه ضروری خبره کولے چه عبارت حل کولو کینے امداد کوی هغه ددے جمع کړه شی او بیا ددے اولیکلے شی۔ لیکن بنده د خپل تدریسی مصروفیاتو په وجه سره معذرت خواه وو۔ تردے چه د لوی اختر ۱۳۱۸هـ په چتیانر کینے زمونږ د مدرسه بعضے طالبان افغانستان ته د تلو مشوره اوکړه۔ نود بنده په زړه کینے هم دا داعیه پیدا شوه۔ چه افغانستان کینے دغه په حقیقی او صحیح معنوکینے اسلام نافذ شی او ملکی امن او سلامتی په باره کینے بار بار خبرونه اوریدلو

سرہ دا ارادہ پیدا شوہ۔ چہ زہ ہم افغانستان تہ لارشم اود قرون اولی سپری اوگورم  
حکچہ ہلتہ کینے د صاحبہ کرامورض د مبارک وخت یاد تازہ کیری۔ الحمد للہ ہم بہ دے  
غرض سرہ د جمع پہ شپہ بانڈے پلینبور نہ طوخم تہ اورسیدو۔ لیکن ہلتہ کینے اللہ  
پاک تہ دا منظورہ وہ چہ د بارڈر پولیس بندہ اوبعضے نوی د سفر ملگری حصار کرل،  
او افغانستان تہ د تلو پہ حائے لے موبزہ واپس لنڈیکوتل طفتروان کرل۔ اوہلتہ کینے  
لے موبزہ پہ حوالات کینے بندکرل۔ اول اول کینے خو موبزہ دیر زیات پریشانی وو۔ لیکن  
کلہ چہ موبزہ د خپلو اکابرینو پہ تاریخ بانڈے نظر وچولو چہ ہغوئے د دین اشاعت  
اوترویج د پارہ خنکہ خنکہ تکلیفونہ برداشت کرل وو۔ نو الحمد للہ ہغہ پریشانی  
ختمہ شوہ۔ او سمدستی اللہ پاک راتہ پہ زہہ کینے داخبرہ وچولہ چہ زمونزہ د اکابرینو  
پہ تاریخ کینے داخبرہ د روئبانہ ورخے پہ شان بنکارہ دہ چہ ہغوئے کہ پہ جیل کینے وو،  
یا د جیل نہ بھر وو، قیدیان وو، یا سفیران وو، د دین خدمت ہغوئے خپل فرض  
گنہرلے وو۔ بندہ «اگرچہ د خپلو اکابرینو د پنہو خاؤرو تہ ہم نہ رسی»، ہم خالص د  
اللہ تعالیٰ پہ توفیق سرہ دغہ تنہائی عنیت اوگنہرلے او د حوالات پہ سنتری بانڈے  
لے بازار نہ کاپی او قلم را اوغوبنتلو۔ او د غو ہغہ ضروری فوائد کوم چہ د عبارت  
پہ حل کولو کینے فائدہ ورکونکی وو ہغہ لیکل شروع کرل۔ الحمد للہ خنکہ چہ د  
رہائی وخت رانزدے شو۔ نو اللہ پاک پہ خپل فضل او کرم سرہ د دے کتاب ضروری  
حصہ ختمہ کرہ (خہ مسائل او مثالونہ اوحوالات جات پکینے د رہائی نہ پس زیات کپہ  
شول)۔ بندہ سرہ د دے کتاب د لیکلو پہ وخت کینے د قرآن کریم تہ علاوہ بل ہیخ یو  
کتاب نہ وو۔ پہ دے وجہ سرہ بندہ خپلو گرانو طالبان او تولو استاذانو تہ درخواست  
کری چہ کہ خہ غلطی بیامندے شی بلکہ ضرور بہ شوے وی۔ نر زما غلطی بہ معاف  
کوی۔ او ما بہ د ہغہ نہ خیری۔ زہ بہ ستاسو شکر گزاریم۔ دے سرہ زہ د ہغہ  
تولو طالبان او دوستانو بہ حدہ شکر گزاریم چہ د ہغوئے د مکمل تعاون، توجہ، او  
نیکو د عاگانو پہ برکت سرہ بندہ د دے کتاب ستاسو پہ خدمت کینے د پیش کولو قابل  
جور شو۔ آخرہ کینے اللہ پاک تہ دعا دہ چہ دامات گدہ نقوش پہ خپل دربار کینے قبول  
کری او بندہ د پارہ او د بندہ تولو استاذانو او والدینو د پارہ لے د نجات ذریعہ  
او گرجوی او د جامعہ محمدیہ بانی حضرت اقدس مولا نا قاضی عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ  
تہ پہ خپل جوار رحمت کینے حائے ورکری او د ہغہ فیض دے ترقیامتہ پورے جاری او

ساری اوساتی . آمین - بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم یا حسن  
الی یوم الدین .

{ عبد ضعیف }  
{ محمد حسن عقی عنہ }

خادم مدرسہ جامعہ محمدیہ ، لیک روڈ علیہ چوہدری لاهور -  
جامعہ قاسمیہ ، رحمانپور ، جامعہ عبد اللہ بن عمرؓ ، سٹواگجومتہ - لاهور .

## د دے کتاب د کتلو طریقہ

تہ چہ کوم بحث کتل غوارے نوقرآنکریم یا بل د عربی حنہ کتاب چہ تہے لولے حان  
تہ مخامخ کیزدہ، بیا کتاب کیے دننہ علاماتوتہ کورہ او د هغه مثالونہ تلاش کورہ۔ شور و خروش  
دایسے عمل کولو سرہ بہ الحمد لله تاتہ د عربی عبارت کیے کافی پورہ حاصل شئی۔

### د نحوی علاماتو د استعمالو لویو حسی مثال :-

د دغے علاماتو او د تراکیبو د حل کولو مثال پہ شان د دوائی دے۔ لکہ حکیم  
یو بیمار تہ دیوے ہفتی دوائی نٹل کولی پہ یوہ شیشہ کیے بند و رکھے او ورتے او ویل  
چہ روزانہ بہ درے درے کولی خورے۔ نو اوس کہ چرے بیمار روزانہ درے درے کولی  
او خوری نو دغہ دوائی پہ ہقہ د پارہ فائدہ مندہ ثابتہ شئی او د شفاء ذریعہ بہ ورتہ  
جو رہ شئی او کہ چرے دغہ بیمار تہولہ دوائی پہ یوہ ورح کیے او خوری نو بیا دغہ دوائی پہ  
حائے د فایذہ یاندے نقصان جوہین۔ دغہ شان د طالب العلم مثال ہم د بیمار پہ شان  
دے او د دغہ علاماتو مثال پہ شیشہ کیے د بند و کولو پہ شان دے۔ لہذا طالب العلم  
دے دغہ علامات تہول پہ یو ورح کیے نہ استعمالوی۔ یعنی د اخبار پہ شان پہ یو مجلس  
کیے دے پہ یو محل تہولو باندے نظر نہ کوی۔ بلکہ د بیمار پہ شان دے پہ مزہ مزہ  
باندے دغہ علامات د کولو پہ شان استعمالوی نو انشاء اللہ دیر زر بہ شفا بیا موہی،  
او د عربی ترکیب کیے بہ لے مہارت او قوت پیدا شئی۔ بیا لکہ خنکہ چہ حکیم صاحب یوسخت  
بیمار تہ پہ یوہ پورہ کیے کولو سرہ سرہ کیسول ہم و رکوی او ہقہ ہم کولو سرہ یو  
یو یا دوہ دوہ خوری، لہذا لوی ترکیبونہ (جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ وغیرہ) حل کول د  
هغه مثال پہ شان د کیسول دے، نو ہقہ دے ہم بقدر ضرورت پہ مزہ مزہ د فہم  
پہ اندازہ کیے استعمال کرے شئی۔ بیا لکہ خنکہ چہ حکیم صاحب کلہ کولو او کیسولو سرہ خکلو  
د پارہ شربت ہم و رکوی۔ د پارہ د دے چہ بدن تہ یخوالے او تازگی ملاؤ شئی۔ نو دغہ شان  
تہ ہم د د علامات کولو سرہ سرہ د نور غتو ترکیبونو سرہ د اجراء ہقہ شربت ضرور  
اخلا۔ حکمہ چہ صرف د علاماتو کولی او د غتو ترکیبونو کیسولونو خورلو سرہ پہ ذہن کیے  
خشکی پیدا کیے شئی لیکن کلہ چہ د اجراء یخ شربت ورسے اوتخکے، نو دغہ پہ ستاد ذہن  
خشکی او بد ولی ختمہ کری اوزہ تہ بہ فرحت او سرور ملاؤ شئی۔ غرض داچہ د دغہ علاماتو  
لور د جملو د تراکیبو حل کولو طریقہ دے پہ مزہ مزہ اجراء سرہ اوکتلے شئی۔

## د علاماتو وغیرہ د اجراء ترکیب :-

د دغہ علاماتو او ترکیبونو د اجراء ترتیب دادے چہ پہ شروع کئے دے مضاف مضاف الیہ او د موصوف صفت ابتدائی کثیر الاستعمال علاماتو مثالونہ د قرآن کریم، احادیث نبویہ لو نورو درسی کتابونو نہ راو باسی او د ہفے دے شمشق او کپے شی، بیا د جملے اسمیئے تعریف او د ہفے علامات دے یاد کپے شی۔ بیا د ورپے جملے اسمیئے مشق دے او کپے شی ورپے جملے اسمیئے نہ مراد ہفے جملہ دہ۔ چہ ہفے د دوو اسمونو نہ جرہ شوعے وی مثلاً: **اللَّهُ سَمِيعٌ**، **اللَّهُ عَلِيمٌ**، بیا دے دغہ جملے مشق او کپے شی۔ چہ ہفے کئے د مضاف مضاف الیہ ترکیب استعمال شوے وی۔ مثال :- **الَّذِي سَجُنُ الْمُوْمِنِمْ مِنْ وَجْتَةِ الْكَافِرِمْ** یاد موصوف صفت ترکیب پکئے استعمال شوے وی۔ لکہ :- **هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ**۔ دے نہ پس دے بیا د جملے فعلیئے حل پہ خلوص حصو کئے تقسیم کرے شی او ہفے دے او لوستلے شی۔

۱- پہ رومی ورج د فاعل او مفاعیل خمسہ تعریفاً، (۲) پہ دویمہ ورج د مضمرا تو بحث، (۳) پہ دریمہ ورج د جملے فعلیئے د تراکیبو حل، (۴) پہ خلوص ورج د جملے فعلیئے اجراء۔ اجراء کئے دے قرآن کریم نہ د جملے فعلیئے سنہ مثالونہ راویستلے شی او پہ ہفے کئے د فاعل او مفاعیل خمسہ کئے دھریو تعین سرہ د تعارف او کپے شی۔ اشاء اللہ دغہ شان خو ورجے مشق کو لوسرہ بہ د طالبعلمانو ترکیب سرہ مناسبت پیدا شی۔ بیا د باقی تراکیبو سرہ د مشقہ وریاد کرے شی۔ داد بندہ ناقصہ رائے دہ۔ باقی استاذان صاحبان چہ شپہ او ورج د مہمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خدمت کئے مشغول دی۔ دخیل علم او فہم پہ بنیاد ہفے ترتیب دے خپل کری۔ کوم چہ طالبعلمانو د پارہ فائدہ مند گنری۔

## دفع دخیل مقدر (دسوال مقلدہ جواب) :-

د دے کتاب د لوستونکو پہ ذہن کئے دے دا خبرہ ملحوظہ وی۔ چہ دا علامات د ابتدائی طالبعلمانو د ذہن مطابق لیکلے شوی دی۔ پہ دے علاماتو کئے د عام استعمال لحاظ شوے دے۔ لہذا کہ چرے یوحائے کئے خہ مثال د دغہ علاماتو خلاف ملاو شی نو ہفے دے پہ مستثنیاتو کئے شمار کرے شی۔ حکمچہ مقصد د دے علاماتونہ د جزئیاتو انضباط دے۔ لہذا دیو علامت پہ ذریعہ سرہ پہ تسلو کئے د پنخوسو یا زیاتو احاطہ کیدے شی۔ نو ہفے د پارہ یو علامت مقرر کرے شوے دے۔ تہ دغہ علامت نہ مثلاً پنخوس جزئیات او د مثالونو تراکیب حل کرے۔ د باقی حل کو لہ بہ ہم اللہ تعالیٰ ستا پہ ذہن کئے واچری۔

یہ دغہ ٹولو علامتو کینے مشترکہ طور سرہ داخیرہ ذہن کینے اوساقیٰ چہ علامت نہ پس ترجمہ کینے غور اوکرہ۔ کہ چرے ترجمہ نیک وی خو دیرہ سبہ دہ کئی هلتنہ کینے بہ دبل ترکیب احتمال پیدا شی۔

**نور اہم مباحث :-** پہ دے کتاب کینے د مشہور و تراکیب و حل او د علامتو علاوہ درے

**اہم بنیادی مباحث « مثلاً عبارت لوستل او د ہفے داوسید لوطیقہ، طریقہ د مطالعہ، طریقہ د اجراء »** خاص طور سرہ زیاتی کرے شوی دی۔ چہ د ہفے مطالعہ د ابتدائی کتابونو لوستونکو استاذاتو او د عبارت او مطالعہ بارہ کینے پریشانی لرونکو طالبانو د پیارے مہ انشاء اللہ فایدا مندہ ثابتہ شی۔ ورسرہ د نحو میر ہفے ابتدائی بحثونہ ہم پہ آسان انداز کینے ذکر شوی دی چہ د ہفے استحضار د مبتدی د پیارہ د اجراء پہ وخت کینے ضروری دے، د پیارہ د دے چہ پہ دے کتاب پہ بحث د اجراء کینے ذکر شوی سوالات او جواباتو باندے پوہیدلو کینے آسانی پیدا شی۔ آخر کینے خہ انتہائی معذرت سرہ مشورۃ عرض کوم چہ د صرف او نحو ابتدائی کتابونو د پیارہ دے دیو ماہر استاذ خدمات حاصل کرے شی۔ ابتدائی استاذان دے د ہفونے پہ نگرانی کینے د تعلیم سلسلہ جاری اوساقی۔ کلہ چہ لوکے استاذان پہ دے پوہ شی چہ اوس ابتدائی استاذان تعلیمی سلسلہ بنے طریقے سرہ سنبھالوے شی نو بیا دے د صرف او نحو کار ہفونے سہ اوسپارے شی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - اما بعد!

زما محترم او گرانر طالب علمانو! پہ عربی کلام کینے خاصکر، پہ قرآن کریم، احادیث نبویہ او درسی کتابونو کینے دنہ بصیرت حاصلو د پیارہ د عربی ترکیب زدہ کول نہایت ضروری دی۔ حکمہ چہ بغیر د عربی ترکیب زدہ کولو نہ صرف کتاب کتلوسرہ خوبہ تاتہ د کتاب نقوش پہ نظر راجحی، لیکن دغہ نقوش کینے دنہ پتہ معنی، حقائق او د قافونو رسیدل بہ مشکل وی۔ پہ دے وچہ سرہ د خپلو گرانر طالبانو پہ خدمت کینے پہ عربی کلام کینے زیات استعمالیدونکی د عربی ترکیبونو حل کول او د ہفے علامات پیش کیدے شی۔ کہ چرک دغہ علامات یاد کرے شی، او قرآن کریم، احادیث نبویہ او درسی کتابونو د ہفے اجراء او کرے شی نو اللہ تعالیٰ د ذات نہ قوی امید دے چہ دیر زربہ د عربی لوستلو او پوہیدلو کینے ورتہ استعداد حاصل شی، اوس ٹولونہ مخکے پہ کلام د عربی کینے زیات استعمالیدونکی ترکیب د مضاف مضاف الیہ علامتا پیش کیری۔ (وما توفیق الا باللہ وهو حسبی و نعم الوکیل)

**د مرکب اضافی تعریف :** - چہ ہفے کینے دیواسم اضافت (نسبت) بل اسم تہ شوے وی - دکوم اسم اضافت چہ شوے وی ہفے تہ مضاف وائی اوکوم اسم تہ چہ اضافت شوے وی ہفے تہ مضاف الیہ وائی - لکہ کتابُ اللہِ اوس دکتاب نسبت اللہ تعالیٰ طرفتہ شوے دے ، نوکتاب مضاف دے ، او اللہ تعالیٰ مضاف الیہ دے .

### د مضاف مضاف الیہ آسان تعریف :-

مضاف ہفے تہ وائی چہ ہفہ بل خیز د پارہ وی او مضاف الیہ ہفے تہ وائی چہ ہفہ خیز د دہ د پارہ وی - لکہ غلام زید - اوس غلام مضاف دے - حکہ چہ ہفہ بل چاد پارہ دے او زید مضاف الیہ دے - حکہ چہ ہفہ غلام دہ د پارہ دے - لیکن دا تعریف پہ تلوو مثالونو باندے صدق نہ کوی - بلکہ دا ابتدائی طالبانوک پوہے د پارہ دا تعریف کیدے شی -

### د مضاف مضاف الیہ علامات :-

پہ کلام د عربی کینے د مضاف مضاف الیہ د پیرند لو دیر علامات دی - پہ ہفے کینے پرمبنے علامت دادے : (۱) - چہ دوہ اسمونہ وی پہ اولنی اسم باندے الف لام تہ وی او پہ دویم باندے الف لام وی ، نوعام طور باندے دا مضاف مضاف الیہ وی - خوشرط دا دے چہ اولنے اسم د چاد پارہ علم نہ وی - دارنگہ اسم اشارہ او اسم ضمیر ہم نہ وی .  
مثال :- رَبُّ الْعَالَمِينَ - رِيَاضُ الصَّالِحِينَ ، اَدَابُ الْمُتَعَلِّمِينَ ، كِتَابُ الطَّهَارَةِ ، كِتَابُ الصَّلَاةِ  
كِتَابُ الزَّكَاةِ .

(۲) - پہ دنیا کینے چہ ہر قسم اسم وی او ہفے نہ پس ضمیر راشی - تودا پہ خپلو کینے مضاف مضاف

الیہ وی . مثال :- عَلِيٌّ قُلُوبِهِمْ ، وَعَلِيٌّ سَمْعَهُمْ ، وَعَلِيٌّ اَبْصَارَهُمْ ، فِي صَلَوَاتِهِمْ رَبِّكُمْ - پہ خطبہ د شرح جامی کینے دی : الْحَمْدُ لَوْلِيَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلٰى نَبِيِّهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمَتَّادِبِينَ بَادِئِهِ

(۳) چہ درے اسمونوی - اولنی دوہ اسمونو باندے الف لام نہ وی دیرم حائے کینے الف لام

راشی نو ہفہ ہم خپلو کینے مضاف ، مضاف الیہ کرحی - مثال :- مِنْ وَرَقَةٍ جَنْتِ النَّعِيمِ ، مَطْهَرٌ كَلِمَاتِ

اللَّهِ ، سُلْطَانُ عِلْمَاءِ الشَّرْقِ وَالصِّينِ ، مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، بِأَبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، بِأَبِ صَلَاةِ الْعِيدِ

(۴) چہ درے اسمونہ وی پہ اولنی دوہ اسمونو باندے الف لام نہ وی ، دیرم حائے کینے ضمیر

راشی نو ہفہ خپلو کینے مضاف مضاف الیہ کرحی - مثال :- وَاٰخِرَاجُ اٰهْلِمْ مِنْهُ اَكْبَرُ ، بِبَعْضِ

ذُنُوبِهِمْ - لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا - كَلِمَتِ رَبِّكَ - غَسَلُ يَدَيْهِ ، غَسَلُ وَجْهِهِ ، رَجْعُ رَأْسِهِ ، تَخْلِيلُ

لِحْيَتِهِ .

(۵) چہ خلور اسمونہ وی ، پہ اولنی درے اسمونو باندے الف لام نہ وی پہ خلورم اسم باندے

الف لام راشی نو پہ خیلو کینے مضاف مضاف الیہ جو پریندی . مثال :- فی بیان طبقات رواقۃ البخاری (مقدمۃ البخاری صفحہ ۷ جلد اول) نسبتاً سبع عرض الشّعیرة حمامة جرعی حومة الجندل اشجعی .

(۶) چہ خَلُورِ اسمونہ وی پہ پرومبنی درے اسمونو باندے الف لام نہ وی خَلُورِمْ حَائِے کینے ضمیر راشی۔ نو دا خیلو کینے مضاف مضاف الیہ کرجی . مثال :- بعض آیات رَبِّکُ (پ) و کیفیتہ ترکیب بعضہا مع بعض (هدایۃ النحویۃ) و شرط تحتم تأثیرہ (کافیہ ص ۱) مسح ربع رأسیہ (کتر الدقائق) .

(۷) چہ پَنجُہُ اسمونہ وی پہ اولنی خَلُورِ اسمونو باندے الف لام نہ وی پہ پَنجُہُ اسم باندے الف لام راشی نو دا ہم خیلو کینے مضاف مضاف الیہ جو پریندی . مثال :- منصۃ عرائس ابقار افکار المتفکر (تلویح توضیح ص ۱) لَأَنَّ سَبَبَ نَفْسٍ وَجُوبَ صَلَوةِ الظَّهْرِ (وقت الظهر) (شرح حسامی ص ۱۲۴) (۸) چہ پَنجُہُ اسمونہ وی پہ پرومبنی خَلُورِ اسمونو باندے الف لام نہ وی او پَنجُہُ حَائِے کینے ضمیر راشی نو دا ہم پہ خیلو کینے مضاف مضاف الیہ جو پریندی . مثال :- جمیع مدۃ انقطاع رُوئیتی . (شرح مائۃ عامل)

(۹) اسم اشارے نہ مخکینے بغیر د الف لام نہ یو اسم راشی نو دا ہم عام طور باندے مضاف مضاف الیہ جو پریندی، خوش شرط دادے چہ اولنے اسم نکرہ وی . مثال :- اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ - يَا سَمَاءُ هُوَ لَدَاءُ ، وَمَكْرُ اَوْلٰئِكَ هُوَ يَبُورُ . رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اطعمهم - اِنَّ دَابِرَ هُوَ لَدَاءٍ مَّقْطُوعٍ مَّصْحِحِينَ -

(۱۰) اسم اشارے نہ مخکینے بغیر الف لام نہ دوہ اسمونہ راشی نو دا ہم عام طور سرہ مضاف مضاف الیہ وی . مثال :- وتزئین ديباجة هذا الكتاب (توضیح تلویح) - وانما التزم وصف باب هذا . (کافیہ ص ۱)

(۱۱) اسم اشارے نہ مخکینے بغیر د الف لام نہ درے اسمونہ راشی نو دا ہم مضاف مضاف الیہ جو پریندی . مثال :- د بیان اعتبار صفة ذلك الجزء . (اصول الشاشی ص ۱)

(۱۲) د اسم موصول نہ چہ مخکینے بغیر الف لام نہ یو اسم راشی نو دا ہم خیلو کینے مضاف مضاف الیہ کرجی . مثال :- سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴿۱۹﴾ و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم (پ ۶) صراط الذين انعمت عليهم - ايما جزاء الذين يحاربون الله (پ ۶)

(۱۳) اسم موصول نہ مخکینے چہ دوہ اسمونہ بغیر الف لام نہ راشی نو دا خیلو کینے مضاف مضاف الیہ کرجی . مثال :- مثل ايام الذين تحلوا من قبلكم (پ ۱۲)

(۱۳) - یونوم نہ مخکنے بغیر الف لام نہ چہ یواسم راشی نو داہم خیلو کینے مضاف مضاف الیہ کرجی  
پہ دے شرط چہ اولئے اسم نکرہ وی۔ مثال :- کتاب اللہ، رب موسیٰ و ہارون، تخرج من طور سیناء۔  
ومن قوم موسیٰ - غلام زید - کتاب خالد - آل فرعون

(۱۵) یونوم نہ مخکنے چہ دوہ اسمونہ بغیر الف لام نہ راشی نو داہم خیلو کینے مضاف مضاف الیہ کرجی  
مثال :- خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ - فَوَادَ أُمَّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔

(۱۶) یونوم نہ مخکنے چہ درے اسمونہ بغیر الف لام نہ راشی نو داہم خیلو کینے مضاف مضاف الیہ کرجی۔  
مثال : باب قیام شہر رمضان ۔

(۱۷) درے عدد نہ داخلہ ترلش عدد پورے بہ ہمیشہ دا اعداد خیل مابعد تہ مضاف وی او ہغہ اسم  
بہ ولہ تمیز وی۔ دغہ شان مائتہ از الف عدد حواہ کہ مفرد وی او کہ تثنیہ وی۔ دا بہ ہمیشہ خیل  
تصیرتہ مضاف وی۔ مثال سبعة ایام - مائة عام - الف سنة - مائة رجل، الف رجل ۔

(۱۸) کسور اکثر مضاف وی۔ مثلاً نصف، ثلث، رُبُعٌ وغیرہ۔ خوش شرط دادے چہ بغیر الف لام  
نہ وی۔ ہول کسور ذہ دے - نصف - ثلث، ربع، خمس، سدس - سبُع - ثَمَنٌ، تِسْعٌ - عَشْرٌ -  
مثال :- ربع عشر مُسْتَوٍ (قدوری) نصف النهار، ثلث الليل، نصف ماترك - ربع رأسہ -  
فائدة :- معنی دثلث دریمہ یعنی دریمہ حصہ دہ او معنی درربع خلومہ حصہ دہ - لهذا دثلث، ربع  
معنی بہ درے، خلومہ ہیچکے نشی کیدے - حکمہ درے خلومہ خود تلتہ او اربعہ معنی دہ ۔

(۱۹) - کوم الفاظ چہ اکثر مضاف وی ہغہ دادی :- کُلٌّ - بَعْضٌ - قَبْلُ، مَعَ، بَيْنَ، قُدَّامَ  
خَلْفَ، فَوْقَ، تَحْتَ، دُونِ، تَحْوًى، مِثْلُ، خَيْرٌ، أَوْلَا، دُونِ، عِنْدَ - پہ دغہ الفاظو کینے دیو  
خوالفاظو مثالونہ دادی :- كَلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، مِنْ قَبْلِكَ، فَوْقَكُمْ، مِنْ دُونِ اللَّهِ، مِنْ  
بَعْدِ مُوسَى، مُصَدِّقًا ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا - (پ ۲۶)

(۲۰) لفظ دابن یا دابنہ - چہ کلہ د علمینو پہ مینخ کینے واقع شی نو دا بہ د خیل ماقبل دپارہ  
صفت کرجی او مابعد خیل تہ بہ مضاف وی۔ خوش شرط دادے - چہ دغہ علمین د قابل قول دپارہ  
مقولہ نہ وی۔ حکمہ چہ کدغہ علمین د قابل قول دپارہ مقولہ وی۔ نوبیاً ہغہ مبتداء او خبر ہم کرجی  
شی یعنی رومیہ علم بہ مبتداء وی او ابن او مابعد علم بہ صفات مضاف الیہ خبر د ہغے وی۔  
مثال :- وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ -

اوس دلتہ دوارہ علمین (عزیر بن اللہ) دیہودو د قول دپارہ مقولہ دہ،  
پہ دے وجہ سرہ دیوقرائت مطابق چہ ہغہ قرآن کریم کینے لیکے شوے دے (رومیہ علم ہغے  
عزیر باندے تنوین لوستل) عزیر مبتداء دابن شوہ او ابن مضاف اللہ مضاف الیہ،

مضاف سرہ دمضاف الیہ نہ خیر د مبتدأ شو۔ او مبتدأ سرہ د خیل خبر نہ جملہ اسمیہ خبر  
مقولہ او مفعول بہ د قالت د پارہ شوہ۔ قَالَتْ فَعَل، الیہود نے فاعل شو۔ فعل سرہ د  
فاعلہ او سرہ د مفعول بہ نہ جملہ فعلیہ خبریہ شوہ۔

تفصیل د پارہ او کوری، - املاء ماصنَّ به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات فی جمیع القرآن  
(ص ۳۱ حصہ دوم)۔ تطبیقی مثال د قرآن کریم نہ :- قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (پ) و مريم  
ابنت عمران التي (پ)۔

تطبیقی مثال د حدیث مبارکہ نہ :- حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل الخ -  
د دے حدیث پاک پہ سند کینے پنچہ کلمہ لفظ د "ابن" ذکر دے او خلوہ حُلَّه دا  
لفظ د "ابن" پہ مینخ د علمینو کینے واقع شوہ دے۔ لہذا لفظ د "ابن" د ماقبل اسم د پارہ  
صفت کرحی او کوم اعراب چہ د ماقبل اسم دے ہفہ اعراب د ابن ہم دے۔ او ابن خیل مابعد  
اسم طرف نہ پہ مضاف وی۔ مثلاً حدثنا احمد بن يونس - کینے پہ احمد باندے موبن  
رفع لولو۔ پہ دے وجہ سرہ چہ دا فاعل مؤخر دے نو پہ ابن باندے پہ ہم رفع لولو حکم  
چہ دا صفت دے او مضاف الیہ د ابن پہ ہمیشہ د پارہ مجرور وی۔ اوس جر نہ مراد  
عام دے۔ خواہ کسرہ سرہ وی لکہ عن سعید بن المسيب - يافتے سرہ وی۔ لکہ احمد بن  
يونس - يا ياء سرہ وی لکہ عن سعید بن ابی وقاص -

فأیک ۶ :- بخاری شریف او مسلم شریف وغیرہ د احادیثو پہ کتابونو کینے چہ چرتہ ہم حدثنا  
لخبرنا، أَخْبَرَنِي - حَدَّثَنِي وغیرہ صیغے راشی نو د ہفہ فاعل بہ مؤخر وی۔ ضمیر د نا اوی  
بہ مفعول بہ مقدم وی۔ او د سند پہ مینخ کینے چہ کلہ د قَالَ صيغه ذکرشی۔ نو د ہفہ فاعل بہ  
ہمیشہ د پارہ ضمیر (هُوَ) وی چہ ماقبل اسم طرف نہ راجع وی۔ دغہ شان کچرے د سند  
پہ مینخ کینے د قَالَا او قَالُوا د تثنیٰ او جمع صیغے راشی نو د ہفہ فاعل بہ پہ تثنیہ کینے  
الف ضمیر وی او پہ جمع کینے بہ واو ضمیر وی چہ ہفہ بہ ماقبل سند کینے ذکر شوی اسماء  
طرف نہ راجع وی۔

د سند ترجمہ بہ دارنگہ کوو :- حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل (حدیث  
بیان کچرے دے موبن نہ احمد دا لہ احمد چہ خوئے د یونس دے۔ او حدیث بیان کچرے د موبن

تہ موسیٰ دا سے موسیٰ چہ خوئے د اسماعیل دے)

قَالَ :- دے دوارو او فرمائیل، حدثنا ابراهيم بن سعيد - موبن نہ حدیث بیان کچرے د  
ابراهيم دا سے ابراهيم چہ خوئے د سعد دے، پہ دے طریقہ سرہ د ہر سند ترجمہ کوئی۔

**درخواست :** - ددے علامہ اجراء دے د احادیثو پہ سند کینے د سنہ پہ طالب علمانو  
بانڈے اوکھے شی۔ خاص طور د دور حدیث طالبان دے دا علامہ منہ یادہ کری۔ دا احادیث  
پہ سند کینے ددے دیر ضرورت راپنیںیری۔

(۲۱)۔ هرکله دما او من ته مخکنے یو اسم راشی بغیر الف لام نہ۔ نو دا بہ ہم خپلو کینے مضاف  
اومضاف الیہ وی، مثال :- جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (پک) ، جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ (پک)  
يَعْتَبِرُ مَالًا دَمَ لَهُ ، وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لِحَمَّةٍ - كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -

(۲۲)۔ كلہ چه د عدد نہ مخکنے یو اسم بغیر الف لام نہ راشی نو دا ہم خپلو کینے مضاف مضاف  
الیہ گرجی۔ مثال :- تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَطَعَامٌ سِتِّينَ مَسَكِينًا ، قَدْرُ ثَلَاثِ اصْصَابِ الرَّجُلِ۔  
(۲۳)۔ دغه شان چه کل عدد نہ مخکنے دوہ اسمونہ بغیر الف لام نہ راشی نو هغه ہم پہ  
خپلو کینے مضاف مضاف الیہ گرجی۔ مثال :- عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ -

(۲۴)۔ كلہ چه حرف ذکر شی او حرف لفظ ترینہ مراد واخستے شی او هغه نہ مخکنے یو اسم بغیر الف لام نہ  
راشی۔ نو دا پ خپلو کینے مضاف مضاف الیہ گرجی۔ مثال :- خَيْرُ دَانٍ ، اسْمُ دَانٍ ، خَيْرُ دَانٍ لَدَاكَ فِيهِ  
حصول د الف پہ حصول د ب ، بانڈے (قطبی ص ۲۹)

(۲۵)۔ چه حرف ذکر شی او حرف ترینہ مراد شی۔ او بیبا هغه نہ مخکنے دوہ اسمونہ بغیر د الف  
لام نہ راشی نو دا خپلو کینے مضاف مضاف الیہ گرجی۔

مثال :- نَعَتْ اِسْمَ لَدَا الْمُنْبِيِّ . (شرح جامی ص ۱۵۸)

(۲۶)۔ چه حرف ذکر شی او حرف مراد شی (نہ چه معنی) او هغه نہ مخکنے بغیر الف لام نہ در  
اسمونہ راشی نو دا بہ خپلو کینے مضاف مضاف الیہ گرجی۔

مثال :- فِي مَوَاقِعِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ اِلَى . (شرح وقایہ اولین ص ۵۴)

(۲۷)۔ چه حرف ذکر شی او حرف ترینہ مراد شی (نہ چه معنی) او هغه نہ ورا بانڈے خلو اسمونہ  
بغیر د الف لام نہ راشی نو دا خپلو کینے مضاف مضاف الیہ گرجی۔

مثال :- بَيَانِ مَوَاقِعِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ حَتَّى ، (نور الانوار ص ۱۳۰)

(۲۸)۔ چه کلہ فعل یا جملہ ذکر شی او مراد ترینہ فعل یا جملہ واخستے شی (نہ چه معنی)  
او هغه نہ مخکنے بغیر الف لام نہ یو اسم راشی۔ نو هغه ہم پخپلو کینے مضاف مضاف الیہ  
گرجی۔ مثال :- مَنْ يَابَ عِلْمُهُ (اصول جامی)

(۲۹)۔ کوم حائے کینے چه فعل یا جملہ ذکر شی او مراد ترینہ فعل یا جملہ واخستے شی نہ  
چه معنی۔ او هغه نہ مخکنے الف لام نہ بغیر دوہ اسمونہ راشی نو هغه پخپلو کینے مضاف مضاف

الیہ وی۔ مثال۔ یخلافِ بابِ اعطیتُ (ص ۳۱۲ جامی)۔  
 (۳۰)۔ اوکھ چہ د لفظ این ما قبل غیر معرف باللام وی۔ نو ہنہ بہ مضاف وی۔ مثال۔ کل  
 کلام ابن ادم علیہ السلام لا الہ الا امرٌ بمعروفٍ ونہی عن المنکر او ذکر اللہ (زاد الطالبین)  
 (۳۱) کلہ چہ لفظ د کل نہ مخکنے بغیر الف لام نہ خہ اسم راشی۔ نو دا بہ عام طور باندے  
 مضاف مضاف الیہ وی۔ مثال۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیءٍ۔ صدقہ کل قومٍ (بیاب  
 الزکوٰۃ قدوی)، ظلُّ کلِّ شیءٍ۔ (کتاب الصلوٰۃ قدوی)  
 (۳۲) بعضے حارونو کہنے اَن لفظ نہ مخکنے بغیر الف لام نہ کہ چرے یواسم راشی نو اَن سرہ د  
 خیل اسم اوخبر نہ پہ تاویل د مفرد سرہ د ماقبل د پارہ مضاف الیہ گرجی۔ مثال: یتخسِّل  
 اَن کِتَابَکَ ہذا۔ (جامی ص ۱۰)

(۳۳) دغہ شان کہ چرتہ اَن مع الفعل نہ مخکنے یواسم بغیر الف لام نہ راشی۔ نو اَن مع الفعل  
 پہ تاویل د مفرد سرہ د ماقبل د پارہ مضاف الیہ گرجی۔ مثال۔ من بعد ان اظفرکم علیہم  
 من قبل ان تقدرواعلیہم (پ)

### فوائد نافعہ

(فائدہ ۱)۔ پہ اردو ژبہ کہنے بہ ترجمہ د مضاف الیہ نہ شروع کیڑی۔ او د مضاف الیہ  
 پہ ترجمہ کہنے بہ لفظ د کا، کے راجی۔ لفظ د کا) بہ ہلہ راجی چہ کلہ مضاف مذکر وی۔ لکہ:  
 عبدُ اللہ (د اللہ بندہ) او کہ چرے مضاف مؤنث وی نو لفظ د (کی) بہ راجی، لکہ مَرِيَمُ ابْنَتُ  
 عِمْرَانَ (مریم د عمران لور)؛ او کہ چرے مضاف صیغہ د جمع مذکر وی۔ نو بیا د مضاف  
 الیہ پہ ترجمہ کہنے بہ لفظ د (کے) راجی لکہ: قُلُوبِهِمْ (اُن کے دل) (دھنوی زری نہ) او کہ  
 چرے مضاف صیغہ د جمع مؤنث وی۔ نو بیا د مضاف الیہ پہ ترجمہ کہنے بہ لفظ د (کی) راجی  
 لکہ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ (اُن کی آنکھوں پر) (دھنوی پہ سترگو باندے)۔

لو کہ چرے مضاف الیہ ضمیر د متکلم یا د مخاطب وی نو بیا بہ د مضاف الیہ پہ  
 ترجمہ کہنے الفاظ د را۔ رہے، ری استعمالین ی۔ لکہ رَبِّکَ (تیرا رب) ستا ریت، ابنتی  
 (میری بیٹی) زہالور،۔ اَبْنَاؤُنَا (ہمارے بیٹے) (زموینز حُامن) او کہ بہ د مضاف الیہ پہ ترجمہ  
 کہنے لفظ د (کو) راجی۔ لکہ:۔ لَا یَجُوزُ لِلرَّوْلِ اجبار الیکر البالغۃ العاقلۃ۔ ترجمہ:  
 نہیں ہے جائز ولی کیلئے باکرہ بالغہ عاقلہ کو (نکاح کیلئے) مجبور کرنا) نہ دی جائز ولی لہرہ  
 چہ مجبورہ کری یا کرہ عاقلہ بالغہ لہرہ پہ نکاح کولو باندے۔  
 فائدہ ۲)۔ کہ چرے پہ یو عبارت کہنے گنہ مضاف مضاف الیہ راجع شی نو ترجمہ

بہ عام طور یا نندے دے آخری مضاف الیہ نہ شروع کیدے شی اود ترجمے صحیح کیدو اوما محاورہ کیدو د پاره بہ دے بعضے مضاف الیہ بہ ترجمہ کینے بہ لفظ د (کا) ذکر کیری اود بعضے بہ ترجمہ کینے بہ لفظ د «کے» ذکر کیری۔ اود بعضے بہ ترجمہ کینے بہ لفظ د «کی» ذکر کیری۔ اود بعضے مضاف الیہ بہ ترجمہ کینے بہ لفظ د «کو» ذکر کیری۔ لکہ: خزانہ رحمت ربی۔ اوس دے مثال ترجمہ بہ د آخری مضاف الیہ نہ شروع کو۔ اود ترجمہ بہ دارنگہ جو پیری «میرے رب کی رحمت کے خزانے» «زماد رب د رحمت خزانے»۔

فائدہ ۳: - بعضے الفاظ کینے بہ ترجمہ د مضاف الیہ کینے الفاظ د «کا، کی، کے» وغیرہ نہ راجی۔ لکہ «ذو، الؤ، سائر۔ اصحب وغیرہ۔

مثالونہ: - ذوالقوۃ المتین (قوت والا) اولوالالباب (عقل والا)، اصحب الجبۃ (جنت والا) علی سائر المسلمین (تمام مسلمانوں پر) (یہ تہو مسلمانانو باندے)۔

فائدہ ۴: - بعضے الفاظ داسے دی چہ دھے ترجمہ دے مضاف نہ شروع کولے شی - مثلاً: کُلُّ - کُلُّ نَفْسٍ (ہر نفس)، درے نہ داخلہ ترنس پورے بہ عدد خیل تیز طرفتہ مضاف وی۔ لہذا ترجمہ بہ دے مضاف نہ شروع کولے شی۔ مثال: - مَلَائِکَہٗ اَیَّامٍ (درے وراخے) فائدہ ۵: - لفظ دیوم ہم مضاف واقع کیری اوکہ دھے مضاف الیہ جملہ واقع کیری لکہ: مثال: یوم ینفع الصدقین - یومیڈ -

فائدہ ۶: - کلہ اضافت د صفت موصوف طرف تہ کیری۔ لکہ: یکریم خطابہ (ای الخطاب للکریم - یعنی کریمانہ خطاب)، اوکہ اضافت د موصوف صفت طرف تہ کیری۔ لکہ: بیروح القدس، (یعنی داسے روح چہ پاکیزہ دے)۔

فائدہ ۷: - کہ چرے دے مضاف مضاف الیہ اود صفت موصوف بہ علاماتو کینے ہیچ یو علامت موجود نہ شو۔ نوہلہ کینے د ترجمہ کولو وخت کینے اؤگورہ چہ د مضاف مضاف الیہ ترجمہ صحیح دہ یا کہ دے صفت موصوف والا ترجمہ صحیح دہ - کہ چرے دے مضاف مضاف الیہ ترجمہ صحیح وہ نوبیائے مضاف مضاف الیہ جو پرکھہ - کئی صفت موصوف جو پرکھہ۔ مثال - صیغہ مرفوع منفصل (د مرفوع متصل صیغہ) اوس کہ چرے دے صیغہ مرفوع کینے د مضاف مضاف الیہ ترجمہ صحیح وی۔ نوہلہ مضاف مضاف الیہ جو پرکھہ - لہو کہ چرے مرفوع منفصل کینے ترجمہ د صفت موصوف صحیح وی نوبیائے صفت موصوف جو پرکھہ۔ مثال: - لَوْمَةٌ لِّاٰیْمٍ - دلہ کینے ہم سبکارہ ہیچ ختم علامت نشہ۔ لیکن دے مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ صحیح دہ (یعنی د ملامتہ کوونکی ملامتیا)

پہ دے وجہ سرہ بہ دامضاف مضاف الیہ کرئی ۔

فائدہ ۱ :- کلہ کلہ مضاف الیہ حذف کرئی او دھے پہ حائے بانڈے الف لام ذکر کرئی لکہ ومن خواصہ دخول اللام اے لام التعریف ۔ کلہ کلہ پہ عوض د مضاف الیہ کیے د مضاف پہ اخر کیے تنوین ذکر کرئی لکہ :- یَوْمَئِذٍ ۔ کلہ کلہ مضاف الیہ حذف کرئی او مضاف مبنی برضمہ کرئی ۔ لکہ ؛ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، اے مِنْ قَبْلُ کُلِّ شَیْءٍ وَمِنْ بَعْدِ شَیْءٍ ۔ فائدہ ۲ :- لفظ د "نحو" چہ پہ مقام د مثال کیے ذکر شئی نو د ماقبل مبتداء (مثالہ یہاں) مثالہا "محذوف د پارہ خبر کرئی" او مابعد طرفتہ مضاف وی ۔ نحو قولہ تعالیٰ :- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ۔

## د مضاف مضاف الیہ اجراء

استاذ ۔ زما محترم و کرانو طالبا نو ا د قرآن کریم ، احادیث نبویہ او خود د اے کتابونونہ د مضاف مضاف الیہ مثالونہ راویا سئی ؟

مشاگرد :- مثالونہ د قرآن کریم نہ ۔ کتاب اللہ ، رسول اللہ ، مسجد اللہ ، یوم القیامہ یوم الدین ، بدیع السموت والأرض ، باذن اللہ ، خشية الانفاق ، اصحاب الجنة ، اصحاب النار ، مطلع الشمس ۔

د احادیث نبویہ نہ مثالونہ :- سید القوم ، طلب العلم ، حب الدنيا ، تحفة المؤمن ید اللہ ۔

نور و درسی کتابونونہ :- کتاب الطہارہ ، کتاب الصلوٰۃ ، کتاب الزکاۃ ، کتاب الحج ، صلوٰۃ العیدین ، فرض الوضوء ، غسل الاعضاء ، مسح الرأس ، سنن الطہارہ ، تحلیل الحجیۃ ، تسمیۃ اللہ ، اذان الفجر ، سجود التلاوة ، علم الہدی ۔ علامہ الوری ۔

استاذ :- یہ ذکر شئی مثالونو کیے تہول للفاظ ترکیب کیے خہ واقع شوی دی ؟ مشاگرد :- مضاف الیہ ۔

استاذ :- تانہ خنک معلومہ شہہ چہ دامضاف مضاف الیہ دی ؟

مشاگرد :- د مضاف مضاف الیہ اول نمبر نہ معلومہ شہہ چہ دا پھیلو کیے مضاف مضاف الیہ دی

استاذ :- علامت اول کوم یودے ؟

مشاگرد :- علامت اول دادے چہ دوہ اسمونہ وی پہ اولتی اسم بانڈے الف لام نہ وی ۔ دویم اسم بانڈے الف لام وی نو د اعام طور بانڈے مضاف مضاف الیہ وی ۔ خو پہ دے شرط چہ اولتی اسم

چا د پاره نوم نہ وی۔ اسم اشارہ ہم نہ وی، اسم ضمیر ہم نہ وی او معنی اے ہم صحیح وی۔  
 استاذ :- کتاب اللہ، سید القوم، مسح الرأس دے درئیو مثالونو ترجمہ اوکرہ ؟  
 شاگرد :- کتاب اللہ معنی دہ (د اللہ کتاب) د سید القوم معنی دہ (د قوم سردار) د مسح  
 الرأس معنی دہ۔ د مسح کول۔

استاذ :- تاہ کتاب اللہ کینے د مضاف مضاف الیہ پہ ترجمہ کینے لفظ د «کی» او پہ سید القوم  
 او مسح الرأس کینے د مضاف مضاف الیہ د ترجمہ کولو پہ وخت کینے اے الفاظ د مکا  
 ولے ذکر کری دی ؟

شاگرد :- مونز پہ فوائد نافعہ کینے د افائدہ لوستلے دہ چہ کہ چرتہ پہ اُر د کینے مضاف مفرد مذکر  
 مستعمل وی نو پہ ترجمہ د مضاف الیہ کینے بہ «کا» راجحی۔ لکہ د عبد اللہ پہ معنی کینے  
 «اللہ کابندہ» لیکن پہ مقام د ادب کینے پہ ترجمہ د مضاف الیہ کینے لفظ د «کے» مستعملیری  
 لکہ د رسول اللہ معنی دہ «اللہ کے رسول» د اللہ رسول۔ دغہ شان کہ چرتہ اردو ژبہ کینے مضاف  
 مفرد مؤنث استعمال وو۔ نو پہ ترجمہ د مضاف الیہ کینے بہ لفظ د «کی» استعمالیری۔ لکہ رحمت اللہ  
 «اللہ کی رحمت» پہ دے وجہ سر مونزہ ہم پہ کتاب اللہ کینے پہ ترجمہ د مضاف الیہ کینے لفظ د  
 «کی» راوہے دے۔ حکم چہ کتاب (مضاف) پہ اُر د کینے مفرد مؤنث استعمالیری۔ او پہ سید القوم  
 کینے مونز پہ ترجمہ د مضاف الیہ کینے لفظ د «کا» راوہے دے۔ حکم چہ «سید» مضاف «پہ  
 اردو کینے مفرد مذکر استعمالیری۔

استاذ :- طعام اللّٰذین - مثل اللّٰذین ، سبحان اللّٰذی ، صراط اللّٰذین - د الفاظ پہ ترکیب کینے خہ واقع شوی؟

شاگرد :- مضاف مضاف الیہ واقع شوی دی ۔

استاذ :- تاتہ خنک پتہ اولکیدہ ؟

شاگرد :- د مضاف مضاف الیہ علامت دولسم نہ معلومہ شوه چہ د اچیلو کینے مضاف مضاف  
 الیہ دی ۔

استاذ :- دولسم علامت کوم یودے ؟

شاگرد :- دولسم علامت دادے چہ د اسم موصول نہ منکینے بغیر الف لام نہ یونوم ذکر شوی

نودا هم پہ خیلو کینے مضاف مضاف الیہ گرجی ۔

استاذ :- وکیفیة ترکیب بعضا مع بعض د الفاظ پہ ترکیب کینے خہ واقع شوی دی ؟

شاگرد :- مضاف مضاف الیہ ۔

استاذ :- تاتہ خنک پتہ اولکیدہ ؟ شاگرد :- شپزم علامت نہ ۔

استاذ :- شپن م علامت کوم یو دے ؟  
 مشاکرد :- چہ خلوم اسمونہ وی پہ درے اسمونو باندے الف لام نہ وی خلوم حُاے  
 کینے ضمیر راشی نو دا پہ خپلو کینے مضاف مضاف الیہ کجھی .  
 د باقی علاماتو اجراء دے ہم د دے علاماتو پہ اجراء ہاؤدے قیاس کرے شی  
 فَاکِدَہ :- ہفہ نزم یا عنوان چہ د مضاف مضاف الیہ نہ جوہ شی . لکہ : عید اللہ  
 عبد الرحمن ، خیار الشرط ، خیار العیب (وغیرہ) - بیا دغہ نوم یا عنوان دما قبل لفظ دپارہ مضاف  
 الیہ نہ جوہ شی ، نو پہ نوم یا عنوان کینے بہ د مضاف الیہ ترجمہ نہ کوو - یعنی دہ « کا ، کے ، کی » وغیرہ  
 الفاظ بہ نہ راہو - لیکن کلہ چہ دغہ نوم یا عنوان دما قبل خہ لفظ دپارہ مضاف الیہ جوہ شی  
 نوہلہ کینے بہ د مضاف مضاف الیہ ترجمہ کوو - مثلاً :- کتابُ عبد اللہ ، قلمُ عبد الرحمن - باب  
 خیار الشرط ، باب خیار العیب - نو اوس بہ دلہ کینے ترجمہ داستان کوو - عبد اللہ کی کتاب ، عبد الرحمن کا  
 قلم - خیار شرط کا باب ، داہے ترجمہ بہ نہ کوو چہ « اللہ کے بندے کی کتاب ، رحمن کے بندے کا قلم ،  
 شرط کے خیار کا باب - غیب کے خیار کا باب - حُکے چہ ہر کلہ یو لفظ نوم یا عنوان جوہ شی نو د ہفہ لغوی  
 یا لفظی معنی بہ نہ کوہ .

### موصوف صفت

موصوف :- چہ د ہفہ صفت بیان شی - بیا عام دے چہ ہفہ صفت بنہ وی یا کہ یڈ وی .  
 د سنہ صفت مثال : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط .  
 د یڈ صفت مثال :- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّحِیْمِ ط .  
 د صفت اسان تعریف :- صفت ہفہ لفظ دے چہ د موصوف بنہ والے یا موصوفے بیان کری .  
 د صفت اصطلاحی تعریف :- صفت ہفہ تابع نہ ویلے شی چہ پہ داہے ہفہ معنی باندے دلالت  
 اوکری چہ ہفہ معنی پچیلہ پہ موصوف کتے موجودہ وی یا د موصوف متعلق کتے موجودہ  
 وی - دے تعریف نہ معلومہ شوہ چہ صفت پہ دوہ قسمہ دے - صفت بحالہ ، صفت  
 بحالہ متعلقہ .

صفت بحالہ :- چہ د خپل موصوف صفت او حال بیان کری لکہ الصراط المستقیم ، د آ لارہ چہ نیغہ .  
 صفت بحال متعلقہ :- چہ پچیلہ د موصوف حال نہ بیانوی - بلکہ د ہفہ د متعلق حال بیان  
 کری . مثال :- مِنَ الْقَرِیْبِ الظَّالِمِ اٰهْلُهَا - اوس ظالم صفت دے خو چہ موصوف حال نہ  
 بیانوی - بلکہ د ہفہ د متعلق حال بیانوی - حُکے چہ کلے خو پچیلہ ظالم نہ دے ، بلکہ د ہفہ کلی  
 اوسیدونکی ظالمان دی .

## دَ صِفَتِ مَوْصُوفِ عِلَامَاتِ

۱۔ چہ دوہ اسمونہ وی پہ دوارہ و باندے الف لام وی نو داہم عام طور باندے صفت دَ موصوف جوہرین وی۔ خو شرط پکینے دادے چہ دوارہ مفرد وی۔ خواہ کہ مفرد صحیح وی یا کہ مفرد تاویلی۔ یا بہ دوارہ تشبیہ وی۔ یا بہ دوارہ جمع وی او معنی ہے ہم صحیح وی۔ دَ معنی دَ صحیح کید و مطلب دادے۔ چہ کومہ ترجمہ د مبتدأ خیردہ۔ ہم ہفہ ترجمہ دَ موصوف صفت ہم وی۔ یعنی حمل د صفت پہ موصوف باندے کیدے شی۔

مثال :- الصراط المستقیم - اللہ الرحمن الرحیم ، النفس المطمئنة .

۲۔ چہ دوہ اسمونہ وی او پہ دوارہ و باندے تنوین وی نو داہم صفت موصوف کرجی۔ خو شرط دادے چہ اولیٰ اسم چا دیارہ نوم نہ وی۔ او دغہ دوارہ اسمونہ دَ کان وغیرہ او حروف مشبہ بالفعل نہ پس نہ وی۔

مثال :- وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ ، صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، اجْرًا عَظِيمًا ، فَتَحَامِينَا .

کہ چرے اولیٰ اسم چا دیارہ نوم وی۔ نو پہ ابتداء د کلام کینے بہ ہفہ مبتدأ د خبر کرجی۔ لکہ ، زید قایم۔ او کہ چرے دغہ دوارہ اسمونہ کان وغیرہ او حروف مشبہ بالفعل نہ پس وی۔ نو بعضو حایر تو کتے ہفہ دوہ جدا جدا خبر جوہرین وی۔ لکہ : اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

۳۔ چہ درے یا خلوں یا پنچہ اسمونہ باندے الف لام راشی ناول بہ صفت او باقی بہ موصوف وی۔ مثال :- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ، الْحَيُّ وَاجِبٌ عَلَى الْاِحْرَارِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْاِصْحَاءِ . (قدرے)

۴۔ کہ چہ دنکرہ نہ پس فعل راشی نو داہم عام طور باندے موصوف صفت جوہرین وی خو شرط دادے چہ دغہ فعل پہ مقام د جزاء کینے نہ وی۔ مثال :- الْكَلِمَةُ لَفْظٌ ، وَوُضِعَ لِمَعْنَى ، حُرُوفٌ ، تَجْرِ الْأَسْمِ فَقَطْ - كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِيْ نَفْسِهَا -

کہ چرے نکرے نہ پس فعل پہ مقام د جزاء کینے وی۔ نو یا بہ صفت موصوف نہ جوہرین لکہ۔ من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة -

۵۔ چہ ہر اسم مضاف وی ضمیر طرف تہ او ہفہ نہ پس الف لام والا اسم راشی نو داہم بعضو حایر تو کتے خپلو کتے صفت موصوف کرجی۔ مثال :- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ نِعْمَ اَعْظَمُ الشَّامِلَةَ وَالْاَلَاءِ الْكَامِلَةَ .

۶۔ پس د اسم اشارے الف لام والا اسم راشی پہ کلام جاری کینے ، نو داہم خپلو کتے صفت

موصوف جو پریندی خوش شرط پکنے دادے چہ چرتہ دیل ترکیب د پارہ قرینہ نہ وی۔ لکہ: اَنْ  
يُحْيِي هَذِهِ الْاَلَّةُ - یہ دے ترکیب کئے هَذِهِ مفعول بمقدم دے۔  
مثال :- رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ التَّامَّةَ -

(۷) - کلہ چہ اسم موصول نہ وراوندے د الف لام والا اسم راشی نودا ہم خپلو کئے صفت موصوف  
گرچی۔ مثال :- هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُوْعَىٰ مِنْهُمْ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ -

(۸) - کلہ چہ د نکرے نہ پس جار مجرور راشی نوهغه ہم خپلو کئے موصوف صفت جو پریندی  
خوبہ دے شرط چہ دغہ جار مجرور د نکرے نہ ماقبل سرہ متعلق نہ وی۔ یا چرتہ بل یو لفظ سرہ  
متعلق نہ وی۔ مثال :- عَلَىٰ نُجُلٍ عِزِّ الْقَرِينِ عَظِيمٍ - معنی فی نفسہا -

(۹) کلہ چہ یو لفظ ذات نہ مخکے نکرہ راشی نودا ہم عام طور باندے موصوف صفت گرچی  
مثال :- فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ - (کتاب الطہارۃ، قدوسی)

(۱۰) لفظ د ابن دخیل ماقبل د پارہ صفت وی او دخیل مابعد د پارہ مضاف وی۔ مثال :-  
احمد بن محمد بن حسن -

(۱۱) کلہ چہ من بیانیہ نہ مخکے نکرہ راشی نونکرہ یہ موصوف وی او من بیانیہ یہ مقام د ظرف  
مستقر کئے د هغه د پارہ صفت گرچی۔ مثال :- وَلَا يَحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ -

(۱۲) کلہ چہ پر اسم مضاف وی ضمیر طرف تہ او هغه نہ پس اسم موصول راشی نودا خپلو  
کئے موصوف صفت گرچی۔ مثال :- اُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي اَرْضَعْنَكُمْ -

(۱۳) کلہ چہ نکرے نہ پس لفظ د عَیْرُ راشی نودا خپلو کئے موصوف صفت گرچی۔ مثال :-  
اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ - (پا)، وَذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرٌ مَّكْدُوبٍ - (پا)

(۱۴) - چہ دوہ اسمونہ وی او دواہ نکرہ وی نوعام طور باندے د موصوف صفت گرچی  
خوش شرط دادے چہ دواہ مفرد وی یا دواہ تثنیہ وی یا دواہ جمع وی او معنای صیح وی  
مثال :- تَسْمَىٰ حُرُفًا جَارَةً - ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ -

(۱۵) - چہ پر اسم مضاف وی ضمیر طرف تہ او هغه نہ پس اسم اشارہ راشی نودا ہم پ  
بعضے حایونہ کئے صفت موصوف گرچی۔ مثال :- مِنْ سَفَرَاتِنَا هَذَا اَنْصَابًا (پا)، بَوْرًا قِيمًا  
هَذِهِ اِلَى الْمَدِينَةِ - (پا) بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - (پا)

(۱۶) - چہ حرف ذکر کہی او مراد تریبہ د حرف لفظ واختیل شی او هغه نہ پس الف لام والا اسم  
راشی۔ نودا خپلو کئے صفت موصوف گرچی۔ خوش شرط دادے چہ معنی د موصوف صفت صحیح وی  
مثال :- ما والا المشبهتان بلیس - (شرح مانہ عامل) - وتدخل ما الكافه - (شرح مانہ عام)

## فوائد نافعہ

فائدہ ۱ :- کلمہ چہ دموصوف صفت، صفت بحال متعلقہ وی نو دغہ صفت بحال متعلقہ بہ کلمہ صیغہ د فعل وی۔ او کلمہ بہ د اسم فاعل یا د اسم مفعول۔ او یا بہ د صفت مشبہ صیغہ وی۔ او د ہفے فاعل یا نائب فاعل بہ ظاہر وی۔

مثال د فعل: جاءني رجلٌ اكرمني اخوهُ -

مثال د اسم فاعل: - جاءني رجلٌ صالحٌ ابوهُ -

مثال د اسم مفعول: - جاءني رجلٌ مضروبٌ اخوهُ -

مثال د صفت مشبہ: - جاءني رجلٌ كريمٌ ابوهُ -

فائدہ ۲ :- د صفت بحالہ خپل موصوف سرہ پہ لستو خیزونو کینے مطابقت ضروری دے

د خلو رو خیزونو پہ یو وخت کینے موجودیدل ضروری دی۔ ہفے لستو خیزونو دادی :-

افراد، تشبیہ، جمع، تذکیر، تائیت، تعریف، تکثیر، رفع، نصب، او جر۔ ط

داخلو، جرہے دی۔ او پہ ہرہ یوہ جرہہ کینے د یو یو خیز بہ صفت او موصوف دوارو کینے

پہ وخت د مطابقت کینے موجودیدل ضروری دی۔ لکہ د یو سہی مخے تہ خلو رو پلیتو نہ پراتہ

دی۔ او پہ دغہ پلیتو نو کینے پور پلیتہ کینے درے لدوان وی او پہ پور پلیتہ کینے دوہ گلاب جامن

وی۔ او پہ یو کینے درے کیلے وی، او پہ بل کینے دوہ مالتھی وی۔ نو اوس د خوراک طریقہ دادہ

چہ ہر یو پلیتہ نہ یو یو خیز اوچت کرہ، او ہفے اوخوس۔ دغہ شان کوم خائے کینے چہ موصوف او

صفت بحالہ وی۔ نو ہلہ کینے دغہ جوہو نہ یو یو خیز داخل۔ او موصوف صفت بحالہ سرہ او کواہ

فائدہ ۳ :- صفت بحال متعلقہ خپل موصوف سرہ پہ پنخہ خیزونو کینے مطابقت لری۔ او ہفے پنخہ

خیزونو دادی۔ تعریف او تککیر، رفع، نصب، جر او یا قی پنخہ خیزونو (تذکیر او تائیت، افرا

تشبیہ او جمع) کینے د فعل پہ شان دے۔ یعنی چہ د کوم فعل فاعل مذکر یا مؤنث حقیقی وی،

نو فعل بہ ہم مذکر یا مؤنث راوہے لکہ :- ضربت زید، قامت هند۔ او کہ چہ د فعل فاعل

ظاہر او سبکارہ وی۔ تو فعل بہ ہمیشہ د پارہ واحد راوہے لے شی۔ خواہ کہ فاعل تشبیہ وی او یا

جمع وی۔ دغہ شان چہ کلمہ د صفت بحال متعلقہ فاعل مذکر وی یا مؤنث وی۔ فرصت بحال

متعلقہ بہ ہم مذکر یا مؤنث راوہے۔ او کہ چہ تہ د صفت بحال متعلقہ فاعل سبکارہ وو۔ نو صفت

بحال متعلقہ بہ ہمیشہ د پارہ واحد راوہے۔ خواہ کہ فاعل تشبیہ وی یا جمع وی۔

مثالون :- مررت برجل قاعد غلامہ - مررت برجلین قاعد غلامہما

مررت برجال قاعد فلما نهم - مررت بامرءة قاعد ابوہا -

مررتُ برجلٍ قائمًا جاريتًا . (تفصیل دپارہ شرح جامی سلاک اوکرمی)

فائدہ :- پہ اردو ژبہ کہنے عام طور، باندے د موصوف پہ ترجمہ کہنے لفظ د « ایسیا د  
 (کہ چہ موصوف مفرد مذکر وی) راجی - اولفظ د « ایسی » چہ کلہ موصوف مفرد مؤنث وی  
 راجی - اولفظ د ایسے « چہ کلہ موصوف جمع مذکر وی) راجی -

مثال :- جاءني رجلٌ عالِمٌ . (ایا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے)

فائدہ :- ہر کہ چہ یو لفظ صفت وی مضاف مضاف الیہ د پارہ - نو د ہغہ لفظ صفت  
 حرحید و د پارہ درے صورتوں وی - کلہ بہ دغہ لفظ د مضاف او مضاف الیہ د وارو د  
 پارہ صفت وی لکہ :- عبد القاهر بن عبد الرحمن - او کلہ بہ صرف د مضاف د پارہ صفت  
 وی - لکہ کلمات اللہ العلیا . (کنزالدقائق ص ۱) او کلہ بہ صرف د مضاف الیہ د پارہ ،  
 صفت وی ، لکہ غسل الاعضاء الثلاثا .

### د صفت موصوف اجراء

استاذ :- د صفت موصوف مثالوں، را اوباسی ؟

شاگرد :- البيت المعمور ، البحر المسجور ، الخيل المستومة ، الخيط الابيض .

استاذ :- پہ دغہ ذکر شوی مثالوں کہنے دا قول الفاظ پہ ترکیب کہنے خہ واقع شوی دی ؟  
 شاگرد :- موصوف صفت -

استاذ :- تاتہ خنک معلومہ شو چہ د اصفت موصوف دی ؟

شاگرد :- د موصوف صفت د اولئی علامہ نہ

استاذ :- اولئی علامہ خہ دہ ؟

شاگرد :- ہغہ دادہ چہ دوع اسمونہ وی او پہ د وارو باندے الفلام وی نو د اخیلو کہنے  
 موصوف صفت وی -

فائدہ :- د دے اولئی علامہ نہ د شرح مائتہ عامل د دیارلسو نوعو عنوانات ،  
 النوع الاول ، النوع الثاني . . . الخ ) او د ہغہ ترکیب ہم حل شو چہ د اپہ خپلو کہنے موصوف او  
 صفت دی ، بیا صفت سر د موصوف نہ مبتداء شوہ او ما بعد حروف - تحرّ الاسم بیا  
 الحروف المشبهة بالفعل یا ما ولا المشبهتان بليس الخ - د ہغہ د پارہ خبر کرئی -

استاذ :- علی تجارة تنجیکو - حروف تحرّ الاسم - حروف تنصب الاسماء ، حروف تجز م  
 الفعل المضاع - پہ دے مثالوں کہنے د مخکنے لفظ یا الفاظی ، د ما بعد الفاظ سے ترکیبی تعلق خہ د ؟

شاگرد:- دا موصوف صفت دی ؟ . استاذ:- تاتہ ٹنکر معلومہ شوہ ؟  
 شاگرد:- د خلوہ سے علامے نہ راتہ معلومہ شوہ۔ او خلوہ سے علامہ دادہ چہ پس د نکرے  
 نہ فعل راشی۔ نو ہفہ عام طور باندے خلو کہتے موصوف صفت جو زمین ی خوش شرط پکینے داد  
 چہ بہ مقام د جزاء کہتے نہ وی۔  
 د باقی علاماتو اجراء دے ہم د دے علاماتو بہ اجراء باندے قیاس کرے تھی

## د معطوف او معطوف علیہ بیان

تعریف د معطوف بالحرف :- دا ہفتہ تابع تہ وائی چہ د خیل مطبوع سرہ مقصود بالشیئ  
 یعنی چہ د کوم حکم نسبت متبوع تہ شوہ وی، نو د ہفہ نہ مقصود تابع او متبوع د وارہ وی

(خوبہ دے شرط چہ عطف د مفرد بہ مفرد وی)۔  
 د عطف حروف لسن دی : واو ، فا ، ثم ، حتی ، اما ، او ، ام ، لا ، بل ، لكن ،

مثال:- ضَرَبَ زَيْدًا ، وَ - عُمَرُو  
 مطبوع (معطوف علیہ) حرف عطف ← معطوف تابع -

## د معطوف معطوف علیہ د معلومولو جامع ضابطہ

عطف د اسم پہ اسم باندے ، د فعل پہ فعل باندے ، د حرف پہ حرف باندے ، د عامل  
 پہ عامل باندے ، د معمول پہ معمول باندے۔ کوم اعراب چہ د معطوف علیہ دی ہفہ بہ د معطوف  
 ہم وی۔ د غرہ شان عطف د جملے بہ جملہ باندے وی۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ -

اوس دلتہ کہتے عطف د الرَّسُولَ پہ لفظ د الله باندے دے حکم چہ عطف د اسم پہ اسم  
 باندے وی۔

## د معطوف معطوف علیہ علامات

۱۔ چہ پہ یو کلام کہتے دوہ یاد دوہ نہ زیاتو فعلون کہتے واو راشی نو د نور و فعلون  
 عطف بہ پہ مخکینی فعلون باندے وی۔ مثال:- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ  
 بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ - (القرآن)

اوس دلتہ کہتے د أَخْرَجَ عطف پہ أَنْزَلَ باندے دے ، او د انزل عطف پہ جَعَلَ باندے دے ،  
 ۱۔ ہر کلمہ پہ یو کلام کہتے د متعدد دو نومونو پہ میخ کہتے واو راشی۔ نو اوائیے نوم معطوف

علیہ اوگر جوہ اوباقی معطوف اوگر جوہ .

دغہ شان چہ د نومونو سرہ یوبیل لفظ (غیر علم) راشی۔ چہ پہ حکم کئے د ماقبل نوم سرہ شریک وی۔ فرد هے عطف بہ ہم پہ اولنی نوم باندے کیری .

مثال :- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَلًّا هَدَيْنَا . (پ) - وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَيُوسُفَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَانَ ۝ (پ)

۳۱ - کله چہ پہ یو کلام کئے حرف جر مکرر راشی مثلاً علیٰ توہ دویم جار مجرور عطف بہ کیری پہ اولنی جار مجرور باندے۔ خوش شرط دادے چہ معنی صحیح وی۔

مثال :- اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ . (پ)

وَالصَّلَاةَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبِي . (شرح مانده عامل)

(۴) هر کله چہ پہ یو کلام کئے متعدد اسمونه مضاف وی ضمیر طرف تہ اود هغویں پہ میخ کئے ولو غیره راشی۔ نو هغه هم پہ خپلو کئے معطوف معطوف علیہ جر پیری .

مثال :- لَنْ نُصِِرَ عَلَىٰ طَعَامِهِ وَآحِدٍ قَادِعٌ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّاءِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا -

(۵) - چہ دوه اسمونه وی الف لام والا او پہ میخ کئے ءِ و او راشی۔ نو دویم اسم بہ عطف وی پہ اولنی باندے . (کہ چرے عطف د مفرد پہ مفرد وی نو بیا چہ کرم عامل پہ معطوف علیہ داخلین وی هم هغه عامل بہ پہ معطوف هم داخلین وی۔)

مثال :- الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ . (پ)

په لفظ الله او لفظ رسول دواړو باندے الف لام داخل دی نو دویم اسم بہ معطوف وی پہ اول اسم باندے .

(۶) چہ په متعددو اسماء باندے تنوین وی او میخ کئے ءِ و او وغیره راشی۔ نو باقی ټول اسماء بہ عطف وی پہ اول اسم باندے ، په دے شرط چہ معنی ءِ صحیح وی .

مثال :- وَجَعَلَ فِيهَا سِرَّاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا . (پ)

(۷) کله چہ په کلام کئے اسم موصول مکرر وی او میخ کئے و او وغیره راشی۔ نو دویم اسم موصول (سره وصلی نه) عطف بہ کیری پہ اولنی اسم موصول باند (سره وصلی نه) .

مثال :- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ . (الایه) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ . (الایه)

(۸) کله چہ اسم اشاره مکرر راشی او میخ کئے ءِ و او راشی۔ نو دویم اسم اشاره عطف



زدہ کرہ۔ و سنن الطہارۃ غَسُلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ ادْخَالِهَا الْأَنْاءَ إِذَا اسْتَيْقِظَ الْمَتَوَضِّعُ  
 مِنْ نَوْمِهِ۔ و تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالسَّوَالِ وَالْمُضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقَ وَتَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ  
 وَمَسْحَ الْأَذْنَيْنِ، أَوْ سِ اللِّحْيَةِ مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ حَرْفٌ عَاطِفٌ لِأَصَابِعِ مَعَطُوفٍ۔ نُو مَعَطُوفٌ سِرٌّ  
 د مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ نَهْ مَضَافٌ إِلَيْهِ د مَضَافٌ شَوْه۔ چہ التخلیل دے۔ او تخلیل مضاف سِرٌّ د  
 مضاف الیہ نہ دا عطف شو پہ غسل الیدین باندے۔ غسل الیدین مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ سِرٌّ د تُولَسُو  
 مَعَطُوفَاتُو نَهْ خَبَرٌ د مَبْتَدَأٌ شَوْ، چہ ہفت سنن الطہارۃ دے۔ سنن الطہارۃ مَبْتَدَأٌ سِرٌّ  
 د خَبَرٌ جملہ اسمیہ خیریہ شہ۔

### د مَعَطُوفٌ أَوْ مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ اجراء

استاذ :- د مَعَطُوفٌ مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ مَثَلُونَهُ رَاوِبَاسِيُّ ؟

شاگرد :- اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاٰكِبِيْنَ ، وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ  
 الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۔

استاذ :- چہ نُویم ایت کجہ د الفرقان عطف پہ چا دے ؟ شاگرد :- پہ للکتاب باندے ۔

استاذ :- تاتہ خنک معلومہ شہ چہ د دہ عطف پہ للکتاب باندے دے ؟

شاگرد :- د مَعَطُوفٌ مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ دِيْنَمُ نَبِيْرٌ عَلٰى نَهْ مَعْلُوْمَهْ شَوْه۔ ہفتہ دا چہ دوع اسموی  
 اود وارو باندے الف لام وی نو دویم اسم یہ عطف وی پہ اولی اسم باندے پہ دے  
 شرط چہ معنی لے صحیح وی ۔

استاذ :- للقرآن خو پہ لفظ موسیٰ باندے ہم عطف کیدے شی ؟

شاگرد :- نہ جی۔ حُک کہ چہ چرے د القرآن عطف پہ لفظ موسیٰ باندے اوشی نو بیاد اہم

د لفظ موسیٰ پہ شان آئینا د پارہ مفعولیم جو پین ی، او معنی لے فاسد پین ی  
 حُک کہ چہ اوس بہ معنی راشی۔ کد چہ موبن و مرکز فرقان تہ کتاب یعنی فرقان دکنا  
 اختونک دے۔ حال دا چہ فرقان خو کتاب لہ اختونک نہ دے بلکہ موسیٰ علیہ السلام  
 کتاب او فرقان لہ اختونک دے،

استاذ :- پیر بنہ دہ نو د الفرقان عطف پہ آئینا باندے کیدے شی ؟

شاگرد :- نہ جی۔ تاسو موبن تہ ضابطہ بنو دے و چہ د اسم عطف پہ اسم باندے کیر ی او

د فعل عطف پہ فعل باندے او د حرف عطف پہ حرف باندے کیر ی۔ نو موبن تہ ہفتہ  
 ضابطہ یادہ دہ۔ پہ دے وجہ سر موبن و ایو چہ د الفرقان عطف پہ آئینا باندے نہ  
 شی کیدے حُک کہ چہ آئینا فعل دے او الفرقان اسم دے ۔

استاذ :- شرح مائة عامل كیف الیاء للإصاق وللإستعانة - پس د للإستعانة عطف پہ چا د؟  
 شاگرد :- للإصاق یا ندے عطف دے - استاذ :- قاتہ خنک معلومہ شوہ /؟  
 شاگرد :- د معطوف معطوف علیہ د دریم غیر علاقے نہ معلومہ شوہ - چہ پہ یو کلام کہے یو  
 حرف جرّ مکّرّ راشی - نو دویم جار مجرور بہ عطف وی پہ اول جار مجرور باند  
 استاذ :- عطف د للإستعانة پہ نحو مرآتُ بزید (مثال) باندے کیدے شی ؟  
 شاگرد :- نہ جی ! خنک چہ مثال پہ حکم د جملے معترضے کہے وی د دے پہ ترکیب کہے نہ د ما  
 قبل سره خه تعلق وی اونہ د ما بعد سره -

### د جملے فعلیے د ترکیب حل کو لو طریقہ

د جملے فعلیے د ترکیب حل کو لو نہ و پاندے درے خبریے ذہن کہے یادے ساتی ۱

۱- تعریف د جملے فعلیے ، ۱- د فاعل او مفاعیل خمسہ وغیرہ تعریف ، ۲- بحث د ضما کرو۔  
 د جملے فعلیے تعریف :- جملہ فعلیہ ہف جملے تہ وائی چہ د ہف اول جزء فعل وی او دویم

۲- فاعل وی - مثال :- خَلَقَ اللهُ - خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

د فاعل تعریف :- ۱- لغوی تعریف :- فاعل پہ لغت کہے کار کوونکی تہ وئیے شی -

۲- اصطلاحی تعریف :- پہ اصطلاح کہے ہر ہفہ اسم تہ وائی چہ ہف نہ مخکنے فعل وی

یا مشبہ فعل وی او ہفہ فعل یا مشبہ فعل د غہ اسم (فاعل) سرہ قائم وی - خواہ کہ فاعل ہفہ

او کہی یائے اونہ کہی - مثال دکولو :- خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا -

مثال د نہ کولو :- مات زید (زید وفات شو) جاز الوضوء (اودس جائز دے -

اوس مرگ زید پچیلہ نہ دے پیدا کہے - بلکہ د دے خالق اللہ دے - اود غہ سات

د اودس د جواز والا حکم پچیلہ اودس نہ دے پیدا کہے بلکہ د دے مجوز او خالق اللہ تعالیٰ دے -

### د مفاعیل خمسہ او ملحق بالمفاعیل تعریف :-

یاد ساتی ! چہ د فعل د پارہ فاعل ، مفعول ، حال او د تمیز وغیرہ ضرورت وی -

پہ دے کہے پنجہ مفعولونہ (مفاعیل خمسہ) وی ، او حال او تمیز تہ ملحق بالمفاعیل وائی -

۱- مفعول بس - چہ پہ ہفہ یا ندے فعل د فاعل واقع شوے وی - مثال :- خَلَقَ اللهُ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ طِبَاقًا .

۲- مفعول فیہ :- چہ کوم وخت یا کوم حائے کہے فعل د فاعل واقع وی - مثال :- سُبْحَانَ الَّذِي

أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى - وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ -

۳- مفعول لہ :- چہ د ہفہ پہ وجہ سره خه فعل صادر شی - مثال :- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

خشية املاقي . ضربته تأديباً .

۴ :- مفعول معه ۱- هغه وآو چه په معنى د مع سره وى او هغه نه پس راشي -  
مثال :- وجعلناها وابنها اية للعالمين (پاره ۱۵) - وَسَحَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ -

۵ :- مفعول مطلق :- هغه مصدر ته والى چه فعل مذکور هم معنى وى . مثال :- كَلَّمَ  
اِذَا دَكَّتِ الذُّرُؤُ دَكًّا دَكًّا - وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا -

حال ۱- هر هغه اسم ته والى چه د فاعل يا مفعول به حالت بيان كړي ياد د وارو حالت بيان  
كړي . مثلاً :- وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ - اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِينَ - جَاءَنِي زَيْدًا رَاكِبًا -  
تمين :- هر هغه اسم ته والى چه اول كينے په يوه خبره كينے ابهام وى او دغه اسم هغه ابهام  
لره دفع كړي . لکه :- طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا .

### د حال علامات

۱- فعل نه پس چه اسم فاعل يا اسم مفعول منصوب راشي نو هغه عام طور سره حال واقع كيري  
خو شرط پكښه داد ه چه دغه اسم فاعل وغيره افعال ناقصه نه پس نه وى ، كه چرې وى نو هغه به  
خبر وى . مثال :- وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا - او افعال قلوب نه پس به نه وى - كه چرې وى - نو  
بيا به هغه مفعول به وى . لکه :- عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا - دغه شان هغه به فعل متعدى د پاره  
مفعول به نه وى - مثلاً :- لَمْرَبِّقَ (اللّٰهُ) عَلِيمًا .

مثال د اسم فاعل چه هغه حال وى :- اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا  
ادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - اَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ جَهَنَّمَ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
مثال د اسم مفعول :- وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا -

۲ :- ومن بيانیه ما قبل چه معرفه وى - نودا معرفه ذوالحال كړي او من بيانیه سره دخپل منقول  
نه په مقام د ظرف مستقر كينے د هغه نه حال واقع كيري -

مثال :- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ . (سوره حج پاره ۱۷)

(۳) - کله چه د شرط او جزا په مينع كينے جمله اسميه راشي نو هغه هم حال واقع كيري -

مثال :- ان مات المريض لوالصافروهما على حالهما لم يلزمها القضاء .

(۴) - لفظ دوحده چه كوم هائے كينے راشي نو په تاويل دمفرد سره هميشه دپاره حال كړي او

هغه نه ما قبل ذوالحال كړي . مثال :- مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحَدَّهُ صَامَ -

### د مضمرة التوجيها

اسم په دوه قسمه ده . ۱- اسم ظاهر . ۲- اسم ضمير .

**اسم ظاہر :-** داہفہ اسم دے چہ ہفہ ضمیر نہ وی یعنی ضمیر نہ علاوہ چہ خومرہ اسماء دی ہفہ تہول اسم ظاہر دی۔ مثال :- ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ۔

**اسم ضمیر :-** داہفہ اسم دے چہ ہفہ پہ ذریعے سرہ د متکلم یا مخاطب یا د غائب حال بیان شی۔ مثال :- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ - هُوَ ، أَنْتَ - أَنَا -

اسم ضمیر پہ درے قسمہ دے - مرفوع ، منصوب او مجرور ۔

**۱- مرفوع :-** مرفوع علامہ د فاعل دہ (فاعل نہ مراد عام دے - خواہ کہ فاعل حقیقی وی یا حکمی وی۔ د فاعل حقیقی تعریف مخکنے تیر شوے دے۔

**فاعل حکمی :-** داہفہ دے چہ ہفہ کہنے د فاعل خصلت بیاموندے شی۔ د فاعل دوہ خصلت دی۔ نمبر :- مسندالیہ بہ وی - نمبر دویم نمبر باندے بہ وی یعنی دجملے جز ثانی بہ وی۔ لہذا مبتدأ او خبر پہ فاعل حکمی کہنے داخل شول۔ حکم چہ پہ مبتدأ کہنے د فاعل اولیٰ خصلت موجود دے او خبر کہنے د فاعل دویم خصلت موجود دے۔

**۲- منصوب :-** منصوب علامت د مفعول دے - بیا مفعول عام دے کہ مفعول حقیقی وی یا کہ مفعول حکمی -

**مفعول حقیقی :-** د دے تعریف ماقبل کہنے تیر شوے دے۔

**مفعول حکمی :-** داہفہ تہ وائی چہ پہ ہفہ کہنے خصلت د مفعول موجود وی او خصلت د مفعول دادے چہ فعل خہ خیز سرہ تعلق اونیسی۔ پہ فاعل باندے د مکمل کیدو نہ پس۔ لہذا حال، تمیز پہ مفعول حکمی کہنے داخل شول۔ حکم چہ دوئی کہنے ہم دا خصلت موندے شی۔

**۳- مجرور :-** مجرور علامہ د مضاف الیہ دہ۔

د اسم ضمیر پہ دغہ در پیور قسمونو کہنے ہریو پہ دوہ قسمہ دے، سوا د مجرور نہ چہ ہفہ صرف یوقسیم دے - متصل نہ چہ منفصل - دغہ رنگ د ضمیر تہول پنچہ اقسام جوہیریہ

**مرفوع متصل :-** داہفہ ضمیر دے چہ دخیل عامل سرہ متصل او پیوست وی۔ مثال :- قَتَلْتَ ، أَنْعَمْتَ ، حَسِبْتُمْ ، نَصَرُوا - رَفَعْنَا - أَنْزَلْنَا ۔

**مرفوع منفصل :-** داہفہ ضمیر دے چہ دخیل عامل سرہ ملاؤ نہ وی۔ مثال :- هُوَ - هُمَا - هُمْ - أَنْتَ - أَنْتُمَا - أَنْتُمْ - أَنَا - نَحْنُ ۔

**منصوب متصل :-** داہفہ ضمیر دے چہ دخیل عامل سرہ ملاؤ نہ وی۔ مثال :- مَرَبَّةٌ ، خَلَقَهُمْ ، نَصَرَكَ ، نَعَبُدُكَ ، نَشْكُرُكَ ۔

**منصوب منفصل :-** داہفہ ضمیر دے چہ دخیل عامل سرہ ملاؤ نہ وی۔

مثال ۱۔ اِيَاءُ - اِيَاهُمَا - اِيَاهُمْ - اِيَاكَ - اِيَايَ - اِيَانَا  
 مجرور متصل :- داھفہ ضمیر دے چہ خپل عامل سرہ ملاؤ وی  
 مثال :- عَلَامَةٌ - فِيهَا - رَبُّكَ .

مجرور متصل پہ دوہ قسمہ دے :- امجرور باضافت - مجرور بحرف جر -

مجرور باضافت :- داھفہ ضمیر دے چہ دمضاف نہ پس واقع وی -  
 مِثَالُكَ - رَسُوْلُكَ - نَبِيُّكَ - وَلِيِّكَ ، عَبْدُكَ ، رَبُّكَ - رَبِّيْكُمْ -

مجرور بحرف جر :- داھفہ ضمیر دے چہ پہ ہفہ بانڈے حرف جر داخل وی -  
 حروف جارہ اوہ لس دی - چہ ہفہ لہہ شاعر پہ یوشعر کبے ذکر کری دی -

باو تاو کاف ولام وواو منذومذ حلالا

رَبِّيْ ، خَاشَا - مِنْ - عِنْدَا - فِي - عَنِّيْ عَلَيَّ حَقِّيْ الْحَقِّ

اتہ حروف جارہ چہ ہفہ باو - لام - رَبِّيْ - مِنْ - فِيْ - عَنِّيْ عَلَيَّ او الی دی - دا پہ ضمیر بانڈے  
 داخلیری - لہذا دے نہ پس چہ کوم ضمیر واقع شی نو ہفہ بہ ضمیر مجرور متصل وی -

### مثال د مجرور باضافت

|                 |               |                 |                 |                 |                |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| عَلَامَةٌ       | عَلَامَتُكَ   | عَلَامَتِيْ     | عَلَامَتُهُ     | عَلَامَتُهُمَا  | عَلَامَتُهُمْ  |
| عَلَامَتَاهُمَا | عَلَامَتَاكَ  | عَلَامَتَايَ    | عَلَامَتَاهُمَا | عَلَامَتَاهُمَا | عَلَامَتَاهُمْ |
| عَلَامَتُهُمْ   | عَلَامَتُكُمْ | عَلَامَتِيْكُمْ | عَلَامَتُهُمْ   | عَلَامَتُهُمْ   | عَلَامَتُهُمْ  |
| عَلَامَتَاهُمَا | عَلَامَتَاكَ  | عَلَامَتَايَ    | عَلَامَتَاهُمَا | عَلَامَتَاهُمَا | عَلَامَتَاهُمْ |
| عَلَامَتُهُمْ   | عَلَامَتُكُمْ | عَلَامَتِيْكُمْ | عَلَامَتُهُمْ   | عَلَامَتُهُمْ   | عَلَامَتُهُمْ  |

### مثال د مجرور بحرف جر

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| لَهُ    | لَهُمَا | لَهُمْ  | لَهَا   | لَهَا   | لَهُنَّ |
| لَهُمَا | لَهُمَا | لَهُمَا | لَهُمَا | لَهُمَا | لَهُمَا |
| لَهُمْ  | لَهُمْ  | لَهُمْ  | لَهُمْ  | لَهُمْ  | لَهُمْ  |
| لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   |
| لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   | لَهَا   |
| لَهُنَّ | لَهُنَّ | لَهُنَّ | لَهُنَّ | لَهُنَّ | لَهُنَّ |

|         |         |          |            |           |             |           |             |
|---------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| لَكَ    | بِكَ    | فِيكَ    | رَبِّكَ    | مِنْكَ    | إِلَيْكَ    | عَنْكَ    | عَلَيْكَ    |
| لَكَمَا | بِكُمَا | فِيكُمَا | رَبِّكُمَا | مِنْكُمَا | إِلَيْكُمَا | عَنْكُمَا | عَلَيْكُمَا |
| لَكَنَا | بِكُنَا | فِيكُنَا | رَبِّكُنَا | مِنْكُنَا | إِلَيْكُنَا | عَنْكُنَا | عَلَيْكُنَا |

|       |       |       |          |          |           |          |           |
|-------|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| لِي   | لِيَا | فِي   | رَبِّي   | مِنِّي   | إِلَيَّ   | عَنِّي   | عَلَيَّ   |
| لِيَا | لِيَا | فِيَا | رَبِّيَا | مِنِّيَا | إِلَيْنَا | عَنِّيَا | عَلَيْنَا |

**منصوب ضمير به دوہ قسمہ دے :-**

(۱) متصل ضمیر ، (۲) منفصل ضمیر .

**منصوب منفصل ضمیر :-** دا ہفہ ضمیر دے چہ دخل عامل سرہ ملاؤ نہ وی۔ لکہ:

مثال :- اِيَّاكَ ، اِيَّاكُمَا ، اِيَّاكُمْ .

**مکمل کردان**

|           |             |            |           |             |             |
|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| اِيَّاہُ  | اِيَّاہُمَا | اِيَّاہُم  | اِيَّاہَا | اِيَّاہُمَا | اِيَّاہُنَّ |
| اِيَّاكَ  | اِيَّاكُمَا | اِيَّاكُمْ | اِيَّاكِ  | اِيَّاكُمَا | اِيَّاكُنَّ |
| اِيَّاہِی | اِيَّاہِنَا |            |           |             |             |

**منصوب متصل ضمیر :-** دا ہفہ ضمیر دے چہ دخل عامل سرہ ملاؤ او یوحای

وی۔ مثال :- رَفَعَهُ اللهُ ، قَرَأْنَاهُ ، يَسْتَنْطَوْنَهُ . منصوب متصل ضمیر دے خیزونو نہ

پس واقع کیری .

**(۱) د فعل متعدی نہ پس :-**

|           |             |            |           |             |             |
|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ضَرَبَهُ  | ضَرَبَهُمَا | ضَرَبَهُمْ | ضَرَبَهَا | ضَرَبَهُمَا | ضَرَبَهُنَّ |
| ضَرَبَكَ  | ضَرَبَكُمَا | ضَرَبَكُمْ | ضَرَبَكِ  | ضَرَبَكُمَا | ضَرَبَكُنَّ |
| ضَرَبَنِي | ضَرَبَنَا   |            |           |             |             |

دغہ شان نور، مثالونہ ہم تیار کریں لکہ: قَتَلَهُ ، قَتَلَهُمَا - قَتَلَهُمْ - الخ .

**فائلیرہ :-** کوم حائے کینے چہ د فعل نہ بعد ، هُ ، هُمَا ، هُمْ ، هَا ، هُمَا ، هُنَّ - لَ ، كَمَا ، كُمْ الخ

داغلی وی۔ دا تہول د مفعول بہ ضماثر دی ، او بہ ترکیب کینے د ماقبل فعل د پارہ مفعول بواقع کیری .

مثال :- قَتَلُوهُ ، أَنْزَلْنَاكُمْ مَوْتَهَا ، نَسْتَعِينُكَ ، نَسْتَغْفِرُكَ ، نَشْكُرُكَ ، رَزَقْنَاهُمْ -  
فائدہ ۱- داد مفعول ضمائرِ ماضی ، مضارع ، امر ، نہی تو لو صیغوں نہ پس رائے شی-

## ۲- دحروف مشبہ بالفعل نہ پس :-

إِنَّهُ ، إِنَّهُمَا ، إِنَّهُمْ ، إِنَّمَا ، إِنَّهَا - إِنَّهَا ، إِنَّهِنَّ - إِنَّكِ ، إِنَّكُمَا ، إِنَّكُمْ ، إِنَّكِ ، إِنَّكُمَا ، إِنَّكُنَّ  
إِنِّي ، إِنِّي -

دغہ نشان د تلو حروف مشبہ بالفعل نہ پس کردن او کری . لک :- إِنَّهُ ، إِنَّهُمَا ،  
إِنَّهُمْ - الخ ، كَانَتْ ، كَانْتُمْ ، كَانْتُمْ - الخ ، او حروف مشبہ بالفعل شبہ دی :- إِنَّ ، إِنَّ  
كَانَتْ لَيْتَ ، لَكِنَّ ، لَعَلَّ .

## ۳- د اسماء افعالونہ پس :- (چہ پہ ظاہرہ باندے اسماء وی لیکن معنیٰ فعل ولا

وی) لک

|            |               |              |             |               |               |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| رُوِيْدُهُ | رُوِيْدَهُمَا | رُوِيْدَهُم  | رُوِيْدَهَا | رُوِيْدَهُمَا | رُوِيْدَهُنَّ |
| رُوِيْدِكَ | رُوِيْدِكُمْ  | رُوِيْدِكُمْ | رُوِيْدِكِ  | رُوِيْدِكُمْ  | رُوِيْدِكُنَّ |
| رُوِيْدِي  | رُوِيْدِنَا   |              |             |               |               |

رُوِيْدُهُ پہ معنیٰ اترکہ . ترجمہ : پیروندہ ہفہ لہ -

اجراء عمل :- اِيَّاكَ نَعْبُدُ - قَتَلُوهُ - قَادُ خُلُوْمَا ، عَلَمَكُم ، خُدُوهُ ، نَعَلَكُم ، كَانْتُمْ  
رَبَّكُمْ ، فِيهَا ، لَكُمْ ، اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

زما کر او طالیا قر! پہ دے الفاظو کیے او بنائی چہ کوم ضمائر دی؟ سرہ د نوم نہ لے لوینا

## مرفوع ضمیر

مرفوع ضمیر پہ دوہ قسمہ دے : (۱) منفصل ، (۲) متصل -

مرفوع منفصل ضمیر :- دا ہفہ ضمیر دے چہ دخیل عامل سرہ ملاؤ نہ وی .

مثلاً - هُوَ ، هُمَا ، هُم ، هِيَ ، هُنَّ  
أَنْتَ ، أَنْتُمَا ، أَنْتُمْ ، أَنْتِ ، أَنْتُنَّ

أَنَا ، نَحْنُ -

مرفوع متصل ضمیر :- دا ہفہ ضمیر دے چہ دخیل عامل سرہ ملاؤ وی - اودا پہ

دوہ قسمہ دے : بارز او مستتر -

۱- بارز :- یعنی پہ ظاہرہ لوستلے شی یعنی پہ سترگر سرہ سبکاری .

۲- مستتر :- یعنی چہ پہ ظاہرہ نشی لوستلے کیے ، یعنی پہ سترگر سرہ نہ سبکاری .

سوال :- مرفوع متصل بارت ضمیر پہ کومر صیغو کینے وی ؟

جواب :- مرفوع متصل بارت ضمیر دماضی پہ دولسو صیغو کینے راجی ۔

اول صیغہ د (واحد مذکر غائب مثلاً: ضرب) اوخلومہ صیغہ د (واحد مؤنث غائبہ مثلاً: ضربت)

دے نہ علاوہ باقی پہ دولسو صیغو کینے ضمیر مرفوع متصل بارت بہ وی یعنی پہ سترگو بہ بنکاری۔

دماضی اول صیغہ (مثلاً: ضرب اکرم وغیرہ) نہ پس چہ ثمرہ الفاظ وی ہفہ قول بہ ضمیر وی،

سوا د ضربت نہ - چہ پہ دے کینے تاہ علامہ د تائید دہ - لہذا ضرباً کینے الف او ضربوا کینے

واو، ضربتاً کینے الف، ضربن کینے (نون) او دغہ شان باقی د تہو صیغو اخر کینے ت، تا، ثم

ت، تا، تئن، ت، تا دا قول مرفوع متصل بارت ضمائر دی۔ یعنی پہ سترگو سرہ بنکاری اوس

مرفوع ولے دی ؟ د فاعل علامت دے - متصل رے دی ؟ حکم چہ ملاؤ دی ، بارت ولے دی ؟

بغیر د چٹموتہ ہم پہ نظر راجی ۔

**دمضارع یہ نہہ صیغو کینے :-** پہ دے کینے بہ ضمیر مرفوع متصل بارت وی۔ یعنی پہ

سترگو بہ بنکاری۔ ہفہ نہہ صیغہ دادی: "خلو، د تثنیہ" پہ دے کینے بہ ضمیر الف وی۔ لہذا پہ

یضربان او تضربان کینے بہ ہمیشہ د پارہ الف ضمیر وی۔ دوہ د جمع مذکر « یضربون او تضربون »

پہ دے کینے بہ ہمیشہ د پارہ واو ضمیر وی۔ دوہ د جمع مؤنث صیغہ « یضربن او تضربن » پہ

دے کینے بہ ہمیشہ "نون" ضمیر مرفوع متصل بارت وی۔ یعنی پہ سترگو بہ لیدے شی او پہ تضربن

کینے (یا، ضمیر مرفوع متصل بارت دے - عند الجمہور ۔

**خلاصہ داشوہ :-** چہ پہ دے نہہ صیغو کینے قول ضمائر خلور الفاظ دی : الف

واو، نون، یا۔ کہ چرے د مضارع د دے نہہ صیغونہ علاوہ باقی کرد انون کینے مثلاً: فعل جحد یلم

مؤکد بالن ناصبہ امر اونہی کینے راجی۔ نو دے کینے بہ ہم ہفہ ضمیر وی کوم چہ مضارع کینے دے،

یعنی ضمیر مرفوع متصل بارت۔ مثلاً: لم یضربا کینے الف، اضربوا کینے واو، اضرب کینے یار،

او لا تضربن کینے بہ نون ضمیر مرفوع متصل بارت وی ۔

**اجراء عمل :-** یحبون، اعبروا، ولا یقتلن، لم تفعلوا، لن ناکلوا، لا تقر بوا ۔

گراں محترم مطالبانوا ! پہ دے صیغو کینے اربانی چہ ضمائر کوم یو دی ؟

**ضمیر مرفوع متصل مستتر :-** دا پہ دوہ قسمہ دے :

۱۔ واجب الاستتار :- دا ہفہ ضمیر دے چہ ہمیشہ د پارہ پتہ وی لکہ خنکہ چہ انسان پہ قبر کینے ہمیشہ

دیکر پتہ وی ۔

۲۔ جائز الاستتار :- دا ہفہ ضمیر دے چہ کلہ پتہ وی او کلہ پتہ نہ وی ۔

سوال :- ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار پہ کوہر کوہر صیغہ کئے وی ؟

جواب :- دماضی پہ ہیج یوہ صیغہ کئے خونہ وی ۔ د مضارع پہ درے صیغہ کئے وی ۔  
ہفہ تولا درے ضمائر دی : اَنْتَ - اَنَا - نَحْنُ ۔

واحد مذکر حاضر کئے (یعنی تَضْرِبُ ، تَنْصُرُ - تَعْلَمُ وغیرہ کئے) اَنْتَ - ضمیر مرفوع متصل مستتر  
واجب الاستتار یہ وی ۔

دغہ نشان اَضْرِبُ ، اَعْلَمُ ، اَنْصُرُ وغیرہ کئے اَنَا او نَضْرِبُ ، نَنْصُرُ ، نَعْلَمُ وغیرہ کئے ،

نَحْنُ ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار یہ وی ۔ یعنی ہمیشہ بہ پتہ وی ۔

بیہم دادرے صیغہ علاوہ د مضارع نہ پہ باقی کرد انونو کئے یعنی فعل جحد بلم ، مؤکد

بالن ناصبہ امر او د نہی کئے گردان کئے راشی ۔ نو دے کئے یہ ہم ہفہ ضمیر وی کوم چہ مضارع کئے  
دے یعنی مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار یہ وی ۔ مثلاً لَنْ تَضْرِبَ كَيْفَ اَنْتَ ، لَمْ اَضْرِبْ كَيْفَ  
اَنَا، او لَمْ تَضْرِبْ كَيْفَ نَحْنُ دے ۔ مرفوع ولے دی ؟ د قاعل علامت دے ۔

متصل ولے دے ؟ حُكْمٌ چہ ملاؤ دے ۔ ، مستر ولے دے ؟ حُكْمٌ چہ پتہ دے ۔

واجب الاستتار ولے دے ؟ حُكْمٌ چہ ہمیشہ د پارہ پتہ دے ۔

**اجراء نمبر ۳ :-** نَعْبُدُ ، اَعْلَمُ ، اَضْرِبُ ، اَتْلُ ، اَسَلُ ، لَأَكِيدَنَّ ، لَنْضُرِبَنَّ ۔

زما محترم موکر انوطالبانو ! پہ دے صیغہ کئے تاسو اوسبائی چہ ضمائر کوہر یو دی ؟

سوال :- ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار پہ کوہو صیغہ کئے راشی ؟

جواب :- د افعالو پہ دوو صیغہ کئے راشی (۱) ۔ واحد مذکر غائب یعنی قَتَلَ ، نَصَرَ ، لَنْ نَعْلَمَ  
لَمْ نَضْرِبْ ، لَيَضْرِبْ وغیرہ کئے ، (۲) ۔ واحد مؤنث غائب : یعنی ضَرَبْتَ ، قَتَلْتِ ، نَصَرْتِ ،  
نَضْرِبْ ، لَمْ تَضْرِبْ ، لَنْ تَضْرِبْ ، لَيَقْتُلْ وغیرہ کئے ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار  
بہ وی ، لہفہ تولا دوہ ضمائر دی ۔ هُوَ ، هِيَ ۔

ضَرَبْتَ ، يَضْرِبُ ، لَيَضْرِبُ ، لَيَضْرِبُ وغیرہ کئے هُوَ دے ، او ضَرَبْتَ ، تَضْرِبْ

لَنْ نَضْرِبْ ، لَيَضْرِبْ ، لَيَضْرِبْ وغیرہ کئے هِيَ دے ۔ یعنی ضمیر مرفوع متصل جائز  
الاستتار بہ وی ۔ یعنی کلہ بہ وی او کلہ بہ نہ وی ۔

**اجراء نمبر ۴ :-** فَتَحَ ، يَنْصُرُ ، لَنْ يَضْرِبَ ، لَمْ يَعْلَمْ ، حَسِبَ ، يَحْسِبُ ۔ پہ دے

صیغہ کئے کوم ضمائر دی ؟

**د ضمائر و د بحث خلاصہ :-** د تفصیل پہ ذہن کئے د کینولونہ پس بہ اوس د تفصیل

جیلہ د ترکیب حل پہ آسانی سرہ تاسو نہ معلوم شی ۔ انشاء اللہ ۔ لیک ۔ د تفصیل خلاصہ

درتہ دوبارہ ذکر کوم۔ اوہفہ دادے چہ دَ ماضی پہ دولسو صیغو (داولے اوخلوگہ نہ علا) کجے ضمیر مرفوع متصل بارتہ بہ وی، اود مضارع پہ نہو صیغو کجے بہ ضمیر مرفوع متصل بارتہ وی، (خلوگہ د تثنیے، خلوگہ جمعے او یوہ دمونت حاضرے) اود مضارع بہ درے صیغو کجے بہ ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار وی۔ یعنی چہ ہمیشہ د پارہ پت وی۔

### د فعلیہ جملہ د حل کولو ابتداء

فائدہ ۱ :- د مضارع نہ علاوہ د باقی کرد انونو ضمائر بہ پہ مضارع باندے قیاس کوو۔ یعنی د مضارع پہ کومو صیغو کجے چہ کوم ضمیر دے۔ د باقی کرد انونو پہ ہفہ صیغو کجے بہ ہم ہفہ ضمیر وی مثلاً۔ پہ یضربان کجے الف ضمیر مرفوع متصل بارتہ دے۔ نو پہ کم یضربا۔ لَنْ یضربا، لَیضربا کجے بہ ہم الف ضمیر مرفوع متصل بارتہ وی۔۔ دغہ شان پہ تَضْرِبُ کجے۔ "أَنْتَ" ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار دے۔ نو کم تَضْرِبُ، لَنْ تَضْرِبُ، اِضْرِبُ اَوْ لَا تَضْرِبُ کجے بہ ہم أَنْتَ ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار وی۔

فائدہ ۲ :- د دے دولسو صیغو د ضمیر دویم نرم فاعل دے۔ یعنی د فاعل ضمیر ۔

فائدہ ۳ :- لو د ضمائر بہ کلمہ ہم دغہ صیغو نہ نہ جدا کیری۔ خواہ کہ دغہ ضمیر بارتہ وی یا مستتر وی۔

### د دولسو صیغو پووخ قاعل

کہ چہ دے دا خلاصہ پہ ذہن کجے کینا ستلہ۔ نو اوس قول طلبان د نعرہ تکبیر یعنی (اللہ اکبر) لو وائی چہ د ماضی پہ دولسو صیغو کجے، د مضارع پہ دولسو صیغو کجے د فعل جحدیم پہ دولسو صیغو کجے، دمؤکد پالن ناصبہ پہ دولسو صیغو کجے دغہ شان د امر، نہی پہ دولسو صیغو کجے بہ فاعل ہمیشہ د پارہ ضمیر وی۔ دے صیغو نہ پس فاعل اسم ظاہر کہ پہ ہیرہ سرہ ہم نہ مشی راتلے۔ دے نہ پس کہ چرے راجی نو ہمیشہ د پارہ بہ مفعول راجی۔ بیا پغہ مفعول کجے مفعول مَعًا خو پہ کلام د عربی کجے دیر کم استعالیٰ ی۔

مفعول فیہ :- د اہفہ لفظ دے چہ پہ ہفہ کجے دحائے یا د اوتھ الامعنی وی۔ مثال د ہفہ مفعول فیہ چہ ہفہ کجے دحائے معنی وی : وَقَالَ اِذْ خُلُوْا مِصْرًا اِنْشَاءً اللّٰهُ اٰمِنٌ ۔  
مثال د ہفہ مفعول فیہ چہ ہفہ کجے دوتھ والا معنی وی لکہ : سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی ۔

**مفعول مطلق او مفعول لہ :-** دا دواہہ مصدر وی۔ کہ چرے یوں لفظ ددغہ فعل یا

شبه فعل (اسم فاعل وغیرہ) مصدر وی نوہغہ مفعول مطلق دے۔ کتاب اللہ او د عربی کتابوں زکینے ددے بے شماره مثالونہ دی۔ د نمونے پہ طبر باندے یوخو مثالونہ دادی :-

ومکروا مکراً ومکرنا مکراً، وَقْتَلُوا تَقْتِيلًا، وَالصُّفْتِ صَفًّا، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ او کہ چرے ددغہ فعل مصدر نہ وی نوبیا ہلتہ کینے اوگورہ! چہ پہ دغہ مصدر کینے دعلت اوسبب والا معنی مشہ دے او کہ نہ؟ کہ چرے وی نو مفعول لہ دے۔ لک: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ضَرْبُهُ تَأْدِيبًا، سَمِيئُهُ بِهَذَا آيَةِ النَّحْرِ رَجَاءً، أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى .

او کہ چرے دعلت اوسبب والا معنی پکینے نہ وی۔ نوبیا بہ کلمہ دغہ مصدر داسم فاعل یا د اسم مفعول پہ تاریل کینے حال جو رہین ی۔ لک: أَرْسَلَهُ هَدًى اِسْمِ هَادِي .

یا بہ تمیز جرحی کہ چرے نسبت وغیرہ کینے ابہام وی۔ لک :- وَحُكْمُهُ أَنْ يَخْتَلِفَ الْخِرَاءُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا وَهُوَ اتِّصَالُ الشَّيْءِ إِمَّا حَقِيقَةً وَإِمَّا مَجَازًا .

کہ چرے دغہ ذکر شوی علاماتو کینے خہ نشانی دغہ لفظ کینے نہ وی کوم چہ دغہ دولسو صیغونہ روستو واقع شوی دے۔ نو تہ پورہ شہاچہ دغہ لفظ بہ اکثر استعمال کینے مفعول بہ وی۔ مثال: أَعْبَدُوا اللَّهَ۔ اوس لفظ اللہ مفعول معہ ہم نہ دے۔ حُكْمٌ چہ واو بمعنی مع نہ پس نہ دے واقع شوی او دادَ أَعْبَدُوا وَآو د جمع مذکر حاضر واو دے او مفعول فیہ ہم نہ دے حُكْمٌ چہ پہ دے کینے دَحَايُے او وخت والا معنی ہم نشستہ۔ او مفعول مطلق او مفعول لہ، ہم نہ دے حُكْمٌ چہ دا مصدر نہ دے۔ ہر کہ چہ پہ دے خلوک مفعول کینے ہیچ یوں مفعول نہ دے۔ نوبیا بہ ضرور مفعول بہ وی۔

## د ووضیغوکچہ فاعل

لہذا ددے تفصیل نہ بہ تاسوتہ داخبرہ بینہ معلومہ شوی وی چہ د فعل پہ کرداروں

کینے ددولسو صیغو فاعل پوچ ضمیر وی۔ لیکن ددوؤ صیغو فاعل کچہ وی (یعنی واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب) د فعل پہ کرداروں زکینے ددے فاعل اسم ظاہر ہم راجی او اسم ضمیر ہم

سوال :- اسم ظاہر بہ کلمہ وی او اسم ضمیر بہ کلمہ وی ؟

جواب :- کہ چرے دادوہ صیغے (واحد مذکر غائب۔ واحد مؤنث غائب) د کلام پہ نشانی کینے واقع وی نوبیا بہ بے فاعل اسم ظاہر وی۔

مثال :- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ - ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا ، إِذْ قَالَ رَبِّكَ ، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ

او کہ چرے ہوا دوہ صیغے پہ مینح د کلام کہنے وی نوبیا بہ ددوے فاعل ضمیر وی۔ پہ مینح کہنے  
د واقع کید و مشپہ: مطلوبہ دی۔

۱۱۔ چہ خبر د مبتداء وی: اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ (يَبْسُطُ کہنے ہُو ضمیر راجع د مبتداء تہ)

۱۲۔ صلہ د موصول وی:۔ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ۔

۱۳۔ صفت د موصوف وی:۔ يَلِكُ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ۔

۱۴۔ ذوالحال د پارہ حال وی:۔ جَاؤُنِي زَيْدٌ قَدْ رَكِبَ۔

۱۵۔ معطوف علیہ د پارہ معطوف وی:۔ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَ السَّمٰوٰتِ بِنَاؤًا وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَآءً

۱۶۔ یاخہ د ایسے قرینہ موجودہ وی چہ د ماقبل مرجع پہ وجود باندے دلالت کری۔ مثلاً: کتاب الصلوٰۃ

کہنے ضمیر مُصَلِّي طرف تہ راجع کیری۔ او کتاب الحج کہنے ضمیر حاجی طرف تہ راجع کیری۔ اوس اگر

چہ د صلی، زکی، حَجَّ صیغے پہ ابتداء د کلام کہنے وی او مخکنے د مُصَلِّي، مُرَكَّبٌ اَوْ جَآءَ ذِکْر

نہ وی۔ نوبیا بہ ہم ددوے فاعل ضمیر وی۔ حُکْمٌ چہ ماقبل ضمیر د ہوا اگر چہ صراحتاً

ذکر نہ دے لیکن حکماً ذکر دے۔ حُکْمٌ چہ عنوان د کتاب الصلوٰۃ، کِتَابُ الزَّكَاةِ اَوْ د کتاب الحج

د اواضعہ کری۔ چہ د دے کارون (صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج) کولو والا مصلی، مُرَكَّبٌ۔ اَوْ جَآءَ د۔

فائدہ:۔ بعضو حایونو کہنے د ادوہ صیغے د کلام پہ مینح کہنے کہ چرتہ وی نوبیا بہ ہم ددے فاعل

ظاہر وی۔ خوش شرط دادے چہ روستوخہ د ایسے ضمیر وی چہ ہفہ ماقبل مبتداء، موصول وغیرہ

طرف تہ راجع کید و نکے وی۔ لکہ: قَرَأْنَاکُمْ کہنے دی:۔ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ حَرِيْرٍ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ۔ اَوْ حَدِيْثِ پاك کہنے دی:۔ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لَسَانِهِ وَيَدِهِ۔ اَوْ د

نور الایضاح کتاب الطہارۃ پہ شروع کہنے یو مثال موجود دے:۔ الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوْزُ التَّطْهِيرُ

بِهَا۔ اَوْ سِ يَهَا کہنے د ہا ضمیر الی اسم موصول طرف تہ راجع کید و نکے دے۔ پہ دے وجہ سرہ

التطهير فاعل ظاہر دے۔ اَوْ قَدْوِي (کتاب المسافر) کہنے دی: السفر الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْاِحْكَامُ۔

## زما محترم و گرانو طالبانو!

الحمد لله دے تفصیل سرہ بہ دفعیے جیلے د حل کولو طریقہ او د ہفہ نقشہ بہ ستاسو پہ

د ذہن کہنے نامستہ وی۔ لیکن ہرکہ چہ د دغہ قواعدو اجراء پہ مثالونو کہنے نہ وی شوی نو ہفہ

وختہ پورے د قانون اوقاعد و وضاحت مشکل دے۔ پہ دے وجہ سرہ زہ معزز گران طالبان خہ وخت

د پارہ جامعہ محمدیہ تہ برحکم چہ ہلتہ کہنے د قرآن کریم ایتونو کہنے د فعلیے جیلے حل کولو د پارہ اجراء او

مشق او کرو۔

## دَسْوَالِ طَرِيقَه :-

د اجراء شروع کولونہ مخکنہ د سوال طریقہ زندہ کریا او ہفہ دادہ چہ کہ چرتہ صیغہ د ماضی وہ نوبہ ہفہ کجہ بہ دوہ سوالونہ وی چہ داصیغہ دوو کجہ دہ یا کہ دولسو کجہ دہ؟ بہ دوو کجہ د کیدو مطلب دادے۔ چہ داصیغہ دو واحد مذکر غائب دہ یا کہ د واحد مؤنث غائب دہ لک: خَلَقَ، نَصَرْتُ۔ اوپہ دولسو کجہ د کیدو مطلب دادے۔ چہ داصیغہ بہ باقی دولسو صیغہ کجہ دہ او ددغہ صیغہ فاعل پوچ دے، او ہفہ ضمیر مرفوع متصل بارن دے لک: خَلَقْتُ وغیرہ چہ ددے فاعل (ت) ضمیر دے۔ کہ چرے دوو کجہ وی نوبیا بہ دویم سوال داوی چہ دا صیغہ بہ شروع کجہ دہ کہ پہ میخ کجہ دہ؟ کہ چرے شروع کجہ وی نوبیا بہ دہ فاعل ظاہر وی۔ لک: خَلَقَ اللهُ، او کہ چرے پہ میخ کجہ وی نوبیا بہ دہ فاعل ضمیر وی اوپہ میخ کجہ دواقع کید شہر مطلبونہ مخکنہ تیر شوی دی، او کہ چرے د مضارع صیغہ وی۔ نوبیا بہ درے سوالونہ کیری۔ دا صیغہ پہ دوو (واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب) کجہ دہ یا دولسو کجہ دہ۔ کہ چرے دولسو کجہ وی نوبیا بہ دویم سوال کیری۔ پہ درو کجہ دہ یا کہ پہ نہو کجہ دہ۔ پہ درو کجہ د کیدو مطلب دادے۔ چہ داصیغہ د واحد مذکر حاضر دہ یا کہ د واحد متکلم دہ یا کہ د جمع متکلم دہ؟ اوپہ کجہ پہ ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستار وی۔ یعنی ہمیشہ د پارہ بہ پت وی۔ لک: تَعَلَّمُ كُنْتُ، اَعْلَمُ كُنْتُ اَنَا او تَعَلَّمُ كُنْتُ خُنُّ ضَمِيرٌ بِتِ دے۔ (تہ یوسہے، یا یوہ سبحہ، یا مونہز تول سری، یا مونہز تولہ بنجہ۔ داد ہفہ ضمائر و معنی دی) اوپہ نہو کجہ د کیدو مطلب دادے چہ داصیغہ د تشبیہ پہ خلوق صیغہ کجہ دہ لک: يَضْرِبَانِ وغیرہ یا د جمع مذکر پہ دوو صیغہ کجہ دہ لک: يَمْسَا لَوْنٌ وغیرہ یا د جمع مؤنث پہ دوو صیغہ کجہ دہ لک: يَقْتُلْنَ وغیرہ۔ یا کہ د واحد مؤنث حاضر صیغہ دہ۔ لک: تَضْرِبِينَ۔ پہ دے نہو صیغہ کجہ بہ ہمیشہ د پارہ ضمیر مرفوع متصل بارن وی۔ او ہفہ بہ پہ سترگو سبکاری۔ او کہ چرے دوو (واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب) کجہ وی نوبیا بہ دریم سوال دا کیدے شہ۔ چہ داد کلام پہ شروع کجہ دہ۔ یا کہ د کلام پہ میخ کجہ دہ۔ کہ چرے د کلام پہ شروع کجہ وی نوبیا بہ دے فاعل ظاہر وی لک: يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ، او کہ چرے د کلام پہ میخ کجہ وی نوبیا بہ دے فاعل ضمیر وی۔ لک: - وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

## اجراء :-

حضرت استاذ محترم :- ! قرآن پاک نہ جملے فعلیے مثالونہ راویا سو؟  
 طلباء کرام :- قَتَلْتُ نَفْسًا ، خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، لَنَنْهَرَنَّ رُسُلَنَا  
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

مثال نمبر ۱ :- قَتَلْتُ نَفْسًا .

استاذ محترم :- قَتَلْتُ نَفْسًا - پہ دوؤ کئے دے یا پہ دولسو کئے دے ؟

شاگرد :- پہ دولسو کئے دے .

استاذ :- دہلے فاعل کوم یو دے ؟

شاگرد :- دہلے (تُ) ضمیر دے .

استاذ :- دا کوم یو ضمیر دے ؟

شاگرد :- مرفوع متصل بارز .

استاذ :- مرفوع ولے دے ؟

شاگرد :- علامت د فاعل دے

استاذ :- متصل ولے دے ؟

شاگرد :- د فعل یعنی د خیل عامل سرہ ملاؤ دے

استاذ :- بارز ولے دے ؟

شاگرد :- حُکْمٌ چہ پہ سترگو باندے بنکاری، یعنی لیدے شی .

استاذ :- آیا نفساً فاعل دے ؟

شاگرد :- نہ استاذ جی - محترم - حُکْمٌ چہ تاسو موبن تہ ورا ندے نہ ضابطہ یادہ

کرے وہ - چہ د ماضی پہ دولسو صیغو کئے یہ فاعل پوخ ضمیر وی او ہفہ ضمیر بہ

بارز وی - یعنی پہ سترگو بہ بنکاری - ہفہ ضابطہ موبن تہ یادہ دہ - پہ دے وجہ سرہ موبن

عرض کوو چہ نفساً مفعول دے نہ چہ فاعل دے . ددے فاعل (تُ) ضمیر دے .

سوال :- کیا د مفعول معہ دے ؟

شاگرد :- نہ جی ، حُکْمٌ چہ مفعول معہ خو آو بمعنی مع نہ پس واقع کیری ، دل تہ کئے

خو نفساً نہ مخکے ہیخ واو نشتہ .

استاذ :- سبہ دہ تو مفعول فیہ بہ وی ؟

شاگرد :- نہ جی - حُکْمٌ چہ مفعول فیہ کئے د وخت یاد حُکْمٌ ولامعنی وی - دل تہ پہ دوارو

معنو کئے یوہ ہم نشتہ .

استاذ :- نفساً مفعول مطلق دے ؟

شاگرد :- نہ جی - حُکْمٌ چہ مفعول مطلق خو ہم د ہفہ فعل مصدر وی - دا خو د قَتَلْ

فعل مصدر نہ دے -

استاذ :- نو آيا نَفْسًا مفعول لئ دے ؟

شاگرد :- نہ استاذ جی ! حُكَّ چه مفعول لئ خو هغه مصدر وی چه هغه كینے د سبب او علت والا معنی وی۔ نو دلته خرد علت او سبب والا هیچ یوہ معنی ہم نشستہ۔

استاذ :- ہرکہ چه پہ دغہ خلوی مفاعیلو کینے یرہم نہ دے لوبیا داخہ شے دے ؟  
شاگرد :- دا مفعول بہ دے حُكَّ چه دہ باندے قتل والا فعل واقع دے۔

استاذ :- ہرکہ چه تا فعل، فاعل او مفعول بہ او پڑندو۔ نو اوس ترکیب اسکان شو۔ لہذا ترکیب اوکرہ ؟

شاگرد :- قتلت فعل شو، تا ضمیر فاعل شو، نَفْسًا لے مفعول بہ شو۔ فعل سرہ د فاعل نہ اوسرہ د مفعول بہ نہ جملہ فعلیہ خبریہ شوہ۔

شاگرد :- استاذ جی ! تا سو دا اکوود سوالونہ ولے اوکرہ ؟ یعنی نَفْسًا مفعول معہ دے ؟  
کہ مفعول مطلق دے وغیرہ وغیرہ، نیچ تپوں بہ دکھے وے چه دا مفعول بہ دے لوکہ نہ ؟  
استاذ :- حضرت مولانا یعقوب نانوتوی فرمائی دی چه ہرکہ یوہ اہولے پانرہ سیدھا کول غواہے۔ نو اول ہغہ اہولے کرہ، اوبیا ہغہ نیغہ کرہ نو نیغہ بہ شی۔ بندہ د حضرت مولانا پے ارشاد باندے عمل اوکرہ۔ اوستا پہ ذہن کینے چه کرم کاہہ او اہولجا احتمالات وو۔ ہغہ سے پہ کزن ویرہ سوالونو سرہ نیچ کرہ۔ د پارہ ددے چه صحیح احتمال ستا پہ ذہن کینے حائے اونسی۔

### د ماضی دولسو صیغو مشترکہ ترکیب

|                |                |                   |                |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| قَتَلَا (الف)  | د فاعل ضمیر دے | ظَلَمْتُمْ (تم)   | د فاعل ضمیر دے |
| قَالُوا (واو)  | د فاعل ضمیر دے | جَعَلْتَ (ت)      | د فاعل ضمیر دے |
| قَالَتَا (الف) | د فاعل ضمیر دے | جَعَلْتِ (تی)     | د فاعل ضمیر دے |
| ضَرَبْنَا (ن)  | د فاعل ضمیر دے | جَعَلْتُمَا (تما) | د فاعل ضمیر دے |
| قَتَلْتُ (ت)   | د فاعل ضمیر دے | ضَرَبْنَا (نا)    | د فاعل ضمیر دے |
| اَكَلْتُ (ت)   | د فاعل ضمیر دے | عَلِمْتُ (تن)     | د فاعل ضمیر دے |

فعل سرہ د خپل فاعل نہ جملہ فعلیہ خبریہ شوہ۔

قائدہ :- د ماضی دولسو صیغو مشترکہ ترکیب نہ دا خبرہ معلومہ شوہ چه د شرح مائتہ عامل نوع اولہ یعنی د حروف جارہ پہ بحث کینے د فعلیہ جملے پہ دغہ مثالونو (مَرَّتْ بِرَبِيلٍ؟ بِالْقَلَمِ، اشتریت الفرس بسرجہ، اشتریت العبد بالفرس، سرہ من البصرة الى الكوفة)

اخذت من الدراهم ومیره) کہنے فاعل (ت) ضمیر دے۔ شرح مائتہ عامل کہنے دفعلیے جملے  
چہ کوم جائے مثالونہ ذکر دی۔ نوہنے کہنے د فاعل پیرندگی دفعلیے جملے د ترکیب حل کول پہ مذکور  
طریقے سرہ اوکریا۔

۱۰ مثال :- خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ .

محترم استاذ :- خَلَقَ پہ دوو کہنے دے کہ پہ دولسو کہنے ؟

شاگرد :- پہ دوو کہنے دے۔ یعنی واحد مذکر غائب۔

استاذ :- پہ شروع کہنے دے کہ پہ میخ کہنے دے ؟

شاگرد :- پہ شروع کہنے دے۔

استاذ :- ددے فاعل بہ ظاہر وی کہ ضمیر بہ وی ؟

شاگرد :- ظاہر بہ وی۔

استاذ :- ہجہ کوم یو دے ؟

شاگرد :- لفظ اللہ دے۔

استاذ :- سَبْعَ سَمَوَاتٍ حُرُوشے دے ؟

شاگرد :- دامفعول پہ دے۔ حکم چہ د باقی خلوق مفاعیلو تعریف پہ دہ بانڈے نہ صاد قیری۔

استاذ :- ترکیب نے اوکریا ؟

شاگرد :- خلق فعل شو، لفظ اللہ نے فاعل شو، سبع سموات نے مفعولیم شو۔ لوفعل سرہ د

خپل فاعل او مفعولیم نہ جملہ فعلیہ خیرہ شو۔

۱۱ مثال :- يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ - يُغِدُّمُونَ اللَّهَ -

استاذ :- يُقِيمُونَ پہ دوو کہنے دے کہ پہ دولسو کہنے دے ؟

شاگرد :- پہ دولسو کہنے دے۔

استاذ :- پہ درئیو کہنے دے کہ پہ تھو کہنے دے

شاگرد :- پہ تھو کہنے دے۔ حکم چہ داد جمع مذکر غائب صیغہ دے۔ او ددے فاعل وار ضمیر

یارہ دے۔

استاذ :- الصَّلَاةَ مفعول مطلق دے ؟

شاگرد :- نہ جی ! حکم چہ دامصدر خودے لیکن دماقبل والا فعل مصدر نہ دے۔

استاذ :- ایامفعول فیہ دے ؟

شاگرد :- نہ جی ! حکم چہ دے کہنے د وخت یاد جائے والا معنی نشبہ۔

استاذ :- ایا مفعول لہ دے ؟

شاگرد :- نہ ہی ! حُک کہ دوآو بمعنی مع نہ پس نہ دے .

استاذ :- تو بیا داخہ شے دے ؟

شاگرد :- دامفعول ہم دے حُک کہ ہرکہ پہ خاور مفاعیلو کہ نہ دے تو بیا بہ مفعول بہ وی

استاذ :- اوس ترکیب اوکرہ ؟

شاگرد :- یُقِيمُونَ فِعْل ، وَاَوْضَمِيرُ فَاعِل ، الصَّلَاةُ لُ مفعول بہ شو۔ فعل سرہ وخیل

فَاعِل او مفعول بہ نہ جملہ فعلیہ خبریہ شوہ ۔

استاذ :- دَوِيْقِيْمُوْنَ الصَّلَاةُ معنی خہ دہ ؟

شاگرد :- دغہ تولوسرو موبح قائم کرد۔

استاذ :- یُقِيمُونَ کومہ صیغہ دہ ؟

شاگرد :- دمضارع صیغہ دہ۔ حُک کہ ددے پہ شروع کہنے دحروف ائین نہ یا دہ ۔

استاذ :- تاخومعنی دماضی والا کرے دہ ؟

شاگرد :- استاذ ہی ! مانہ غلطی اوشوہ بیا دوبارہ معنی کوم ۔

استاذ :- بنہ دوبارہ ترجمہ اوکرہ ؟

شاگرد :- دغہ تولوسری موبح قائموی ۔

استاذ محترم :- اوس معنی صحیح شوہ۔ حُک کہ تا د صیغہ مطابق ترجمہ کرے دہ ۔

۴ مثال :- لَنْصُرُ رُسُلَنَا .

استاذ :- پہ دوں کہنے دے یا کہ پہ دولسو کہنے دے ؟

شاگرد :- پہ دولسو کہنے دے ۔

استاذ :- پہ دریو کہنے دے کہ پہ نہو کہنے دے ؟

شاگرد :- پہ دریو کہنے دے ، یعنی جمع متکلم دے ۔

استاذ :- ددے فاعل بہ ظاہر وی کہ ضمیر بہ وی ؟

شاگرد :- ضمیر بہ وی :

استاذ :- کوم ضمیر بہ وی ؟

شاگرد :- ددے ضمیر بہ مرفوع مستتر واجب الاستتار وی او هغه مَحْنُ دے او رُسُلَنَا مفعول

بہ دے فعلیہ سرہ دخیل فاعل نہ اوسرہ دمفعول بہ نہ جملہ فعلیہ خبریہ شوہ ۔

استاذ :- ترکیب نہ پس ترجمہ اوکرہ ؟

شاگرد :- خامخواہ امداد بہ کوو موہن د خپلو رسولانو۔

۱۰ مثال :- وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

استاذ محترم :- لَا يَهْدِيْ يٰہ دُوُوُ کِنے دے کہ پہ دولسو کِنے دے ؟

شاگرد :- پہ دُوُوُ کِنے دے .

استاذ :- پہ شروع کِنے دے کہ پہ ميخُ کِنے دے ؟

شاگرد :- پہ ميخُ کِنے دے حُکْمُچہ داخير د مبتداء دے .

استاذ :- فاعل ددے ظاھر دے ، کہ ضمير دے ؟

شاگرد :- ددے فاعل هُوُ ضمير دے .

استاذ :- د هو معنى ده (هغه) اولفظ دهغه په هغه وخت کِنے مستعملير ي کله چه

مرجع مخکې ذکر وي۔ نو دلته کِنے مرجع کوم ده ؟

شاگرد :- ما قبل مبتداء ده يعنى لفظ الله دے .

استاذ :- القوم الظّٰلِمِيْنَ په تركيب کِنے شے واقع شوه دے ؟

شاگرد :- داموصوف صفت/مفعول به دے۔ حُکْمُچہ دباقي خلوك مفاعيلو تعريف په دے نه

صادقير ي .

### أهمه فائده (اول)

ٲول ضمائر خوارسٲى دى۔ په دے کِنے شپږ ضمائر دغائب دپاره دى چه هغه راجع

کيږي۔ نو هغه دپاره مرجع ضرورى ده، اوس ضمير مرجع په درے قسمه ده .

لفظى ، معنىى ، حُکْمى .

مرجع لفظى :- دا هغه مرجع ده چه ما قبل صراحتاً ذکر وي۔ لکه : الكلمة .....

هوى اسم ، فعل ، حرف .

مرجع معنىى :- دا هغه ده چه ما قبل صراحتاً ذکر نه وي۔ دمرجع معنىى درے صورتونه

دى ، ى۔ يو مفرد ده چه په ضمن دجمع کِنے موجوده وي، لکه :- الْمَرْفُوعَاتُ هُوَ مَا اشْتَمَلَتْ

عَلَى عِلْمِ الْفَاعِلِيَّةِ۔ اوس دلته کِنے هُوُ ضمير مرفوع طرف ته راجع دے کوم چه د مرفوعات

په ضمن کِنے موجود دے۔ دغه شان المنصرباى - هُوَ مَا اشْتَمَلِ إِلَى الْخَيْرِ ، أَوِ الْبُجُورِ

هُوَ مَا اشْتَمَلِ كِنے هم د هُوُ ضمير مرجع معنىى ده .

ى :- مشتق منه چه په ضمن د مشتق کِنے موجوده وي، لکه : اعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى

اوس هُوُ ضمير هغه عدل طرف ته راجع دے کوم چه د اعدلوا په ضمن کِنے موجود دے .

۳۔ ددغہ ضمیر مرجع بہ کلام دچلولونہ معلومیہ ی، لکہ : **وَلَا بَوْبِيَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَمَّا**  
 اوس دابویہ د ضمیر مرجع میت دے۔ کوم چہ د کلام د سیاق نہ معلومیہ ی۔ **حُكِّمَ** چہ ماقبل  
 کینے ذکر دوراٹت دے۔ نو وراثت دمرووی نہ چہ دثرویند وخلقو۔

**مرجع حکمی** :- دا ہفہ مرجع دہ چہ معهود فی الذہن وی یعنی ذہن کینے موجود  
 وی، او دغہ ضمیر نہ پس پوہ جملہ وی۔ او ہفہ جملہ ددغہ ضمیر تفسیر کوی، اوس کہ  
 چرے دا ضمیر د مذکر وی۔ نو دے تہ ضمیر شان ویلے شی۔ او کہ دمونت وی نو بیا ہفہ  
 تہ ضمیر قصہ ویلے شی۔ مثال :- **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**۔ داہو ضمیر شان د ہفہ تفسیر کوی  
 کہ چرے ضمیر غائب نہ ورا ندے د مرجع ددغہ دریو و قسمونونہ یو قسم ہم موجود نہ نو،  
 نو بیا اضمار قبل الذکر لازمیہ ی۔ یعق د مرجع د ذکر نہ مخکینے ذکر د ضمیر لازمیہ ی۔ او دا پہ کلام د  
 عربو کینے ناجائز دے، (خر شرط دادے چہ اضمار قبل الذکر لفظاً ہم وی اور تیسہ ہم وی)۔

مثال :- **قَرَّبْتُهٗ**۔ پہ دے مثال کینے اضمار قبل الذکر دی۔ **حُكِّمَ** چہ معنی ہے دادہ۔ «**مَا هَذَا لِرَبِّهِ**  
 او وھلو، نو اوس لفظ دکھفہ ہلہ استعمالیہ ی۔ کہ چہ مخکینے نہ معلومہ وی۔ چہ **حُرِّكُ** وھلے شو  
 دے۔ لہذا کہ چرے دا او ویلے شی : **زَيْدٌ ضَرَبْتُهٗ**، دا مثال جائز دے۔ **حُكِّمَ** چہ د ضمیر غائب  
 مرجع مخکینے ذکر دہ او ہفہ دہ۔ **زَيْدٌ** ضمیر متکلم او مخاطب ماقبل طرف تہ نہ راجع کیری  
**حُكِّمَ** چہ ضمیر متکلم او مخاطب چہ پہ کوم ذات یانہ۔ ذات کوی ہفہ بالکل مخامخ موجود دے۔  
 مثال :- **ضَرَبْتُ**۔ ما وھل او کرب۔ **ضَرَبْتُ**۔ ما ہر او کرب۔

اوس دا دواہہ ضمیر ونہ چہ کوم ذات یانہ، ذات کوی۔ ہفہ بالکل مخامخ مدرسہ کینے  
 موجود دے۔ نہ چہ بھر دے پہ سرک یانہ۔ پہ دے وجہ سرہ **ذَنَبٌ** صیغہ بہ ہلہ استعمالیہ ی  
 کہ چہ فاعل یعنی وھونکے مخامخ موجود نہ وی۔ بلکہ وھلو نہ پس **تَسَدَّيْتُ** وی۔ کہ چرے د وھونکی  
 ورتہ وی نو بیا ہم ضمیر راجع کولے شی۔ خر شرط پکینے دادے چہ فعل نہ ورا ندے د ہفہ نوم ذکر  
 وی۔ او دادے بہ ویلے شی : **زَيْدٌ ضَرَبَ**۔ نو دا پہ جملہ اسمیہ جوہہ شی۔

او فعل نہ پس ہم اسم ظاہر یعنی د ہفہ فاعل نوم ذکر کولے شی لکہ : **ضَرَبَ زَيْدٌ**، نو  
 بہ جملہ فعلیہ کرچی۔ **حُكِّمَ** چہ اسم ظاہر ہم پہ حکم د ضمیر غائب کینے وی۔ یعنی کوم خائے کینے چہ ضمیر  
 غائب استعمالیہ ی ہلتہ کینے اسم ظاہر ہم استعمالیہ ی شی، لیکن **ضَرَبْتُ** نشی ویلے۔ **حُكِّمَ** چہ ہفہ  
 وھونکے ستا مخامخ حاضر نہ دے۔ لیکن کلا چہ طالبات زید راوینسی او حاضرے کرچی۔ نو اوس  
 حضرت استاد صاحب **زَيْدٌ ضَرَبَ** یا **ضَرَبَ زَيْدٌ** یعنی صیغہ د غائب نشی استعمالیہ ی۔ بلکہ **ضَرَبْتُ** یعنی د  
 مخاطب صیغہ بہ استعمالیہ ی او تپوس بہ ترینہ دادے کوی **أَضْرَبْتُ عُمَرَا**؟ ایاتا عمرو وھلے دے ؟

## دویمہ فائدہ

د فعل پہ گردانوں کے د غائب پہ مشبہ و صیغوں کے مثلاً: ضَرَبَ كَيْتَ هُوَ - ضَرَبَا كَيْتَ الْفِ، ضَرَبُوا كَيْتَ وَآو ، ضَرَبَتْ كَيْتَ هِيَ ، ضَرَبَتْ كَيْتَ الْفِ، اَوْضَرَبْتَن كَيْتَ تَوْن - دا ضما سر بہ ہمیشہ د پارہ ما قبل طرف تہ راجع کیری۔ یعنی کومو افرادو چہ مثلاً د وھلو والا کار کرے وی ما قبل کے بہ د ہغوئے صراحتاً یا اشارتاً یا دلالتاً ضرور ذکر وی، او د غہ ضمیر بہ ما قبل ذکر شوی افرادو تہ راجع کیری۔ مثال: اَلرَّجَالُ ضَرَبُوا ، او د غہ نشان فعل مضارع کنفی جحد بپو لَمْ مُؤَكَّد یا لَنْ نَاصِبہ، امر او نہی پہ گردانوں کے د غائب پہ مشبہ و صیغوں کے چہ کوم بوضمیر دے، ہغہ بہ ہمیشہ د پارہ د ما قبل طرف تہ راجع وی۔

مثال: اَلضَّرْبُ ، يَخْلُقُ كَيْتَ هُوَ ، يَضْرِبَان كَيْتَ الْفِ ، يَضْرِبُون كَيْتَ وَآو اَوْ يَضْرِبْن كَيْتَ (تَوْن) دا قول ضما سر بہ ما قبل طرف تہ راجع کیری۔ مثال: اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، اَوْسِ ضَمِير د يَخْلُقُ مَا قَبْل لفظ اللہ طرف تہ راجع دے۔ یا قی د متکلم او مخاطب د صیغو ضما سر ما قبل طرف تہ نہ راجع کیری۔ حُکْم چہ پہ دے چہ ضمیر کوم کار کوونکی باندے دلالت کوی ہغہ مخامخ موجود دے۔ او ضمیر خوہلہ راجع کیری کلمہ چہ فاعل مخامخ موجود تہ وی۔

نکتہ: - مثلاً د ضرباء معنی دہ « دغہ دووکسانو (ہل او کرل) » اوس پہ دے ضَرَبَا كَيْتَ « وھل لے او کرے » دا صرف د ضرب فعل معنی دہ « تا یوسرے » داد (ت) ضمیر معنی دہ، باقی صیغوں کے دے ہم د فعل او ضما سر د جدا جدا معانیو پیرندگی او کہے شی۔ او پیرندگی اسانہ طریقہ دادہ چہ خومرہ کارونہ دی۔ مثلاً خَوْلَاكُ خَبَاكُ ، اَلْوَسْتَلُ ، پِیْرَنْدَلُ ، داہولے معنی د فعل دی۔ ارذات خواہ کہ سرے وی یا بنحو وی، غائب وی یا کہ مخاطب وی او کہ متکلم د اہولے د ضمیر معنی دی۔

## دریہ فائدہ

دا افعال پہ گردانوں کے پہ معلومو صیغوں کے چہ کوم ضمیر فاعل جو پیری۔ کہ چرے ہمدغہ صیغے د مجھول وی۔ تو بیا ہمدغہ ضمیر مفعول مالم یَسَمِ فاعلہ یعنی نائب فاعل بہ جو پیری بلکہ پہ اسانوالفاظر کے دا سے پورہ مشہ۔ ضَرَبَ ، (وھل او کرل ہغہ یوسری) ، ضَرَبَا (وھل او کرل ہغہ دووسرو) ، ضَرَبُوا - (وھل او کرل ہغہ تولو سرو) پہ معلومو صیغوں کے د اضمیر وھل کوونکے وو۔ یعنی وھل کوونکو افرادو باندے لے دلالت کرلو۔ نو پہ مجھولو صیغو بہ یہ د اضمیر وھل خرپے شوے وی۔ یعنی وھل شوویو افرادو باندے یہ دلالت کوی۔ لک: ضَرَبَ ضَرَبَا - ضَرَبُوا - ، « او وھلے شو ہغہ یوسرے ، او وھلے شول ہغہ دوو سرے ، او وھلے شول ہغہ تولو سرے ،

قنبیہ :- د فعل مجهول پہ دواسو صیغو کینے بہ نائب فاعل پرخ ضمیر وی۔ او پہ دوو صیغو کینے (واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب) بہ نائب فاعل کل ظاہر وی او کل بہ ضمیر وی کہ چرے پہ شروع کینے وی نو ظاہر بہ وی۔ لکہ : خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا۔ او کہ چرے پہ مینخ کینے وی۔ نو بیابہ ضمیر وی لکہ :- مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ . (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲)

د نائب فاعل یاقی تفصیل د فاعل پہ تفصیل باندے قیاس کرے۔

## خوارمہ فایده :-

### اسماء صفات

یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفصیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ۔ پہ د کینے بہ ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار وی۔ او ہفہ قول شپین ضمائر دی :- هُوَ، هُمَا، هُمْ، هِيَ، مِمَّا هُنَّ۔

اسم فاعل :- ضَارِبٌ کینے هُوَ ضمیر د واحد مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَارِبَانِ کینے هُمَا ضمیر د تشبہ مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَارِبُونَ کینے هُمْ ضمیر د جمع مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَارِبَةٌ کینے هِيَ ضمیر د واحد مؤنث غائبہ مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَارِبَتَانِ کینے هُمَا ضمیر د تشبہ مؤنث غائبہ مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَارِبَاتٌ کینے هُنَّ ضمیر د جمع مؤنث غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَوَّابٌ کینے هُنَّ ضمیر د جمع مؤنث غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضُرْبٌ کینے هُنَّ ضمیر د جمع مؤنث غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَوِّيرٌ کینے هُوَ ضمیر د واحد مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَوِّيرَةٌ کینے هِيَ ضمیر د واحد مؤنث غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

ضَرْبَةٌ نہ داخل تر ضُرُوبٌ پرے تو لو صیغو کینے ہم ضمیر د جمع مذکر غائب مرفوع

متصل مستتر جائز الاستتار بہ وی۔

اسم مفعول :- مَضْرُوبٌ کینے هُوَ ضمیر واحد مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

مَضْرُوبَانِ کینے هُمَا ضمیر تشبہ مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

مَضْرُوبُونَ کینے هُمْ ضمیر جمع مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

مَضْرُوبَةٌ کینے هِيَ ضمیر واحد مؤنث غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

مَضْرُوبَاتٌ کینے هُمَا ضمیر تشبہ مؤنث غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔

مَفْرُوبَاتٍ كَيْفَ هُنَّ ضَمِيرٌ جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ مُسْتَرَجَانُزٌ اَلِاسْتِنْسَارِ .  
مُضَارِيْبٌ كَيْفَ هُوَ اَوْ هُنَّ ضَمِيرٌ دَعْوَى . حُكْمٌ فِي دَادٍ جَمْعٍ مُكْرَمٍ صِيغَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ  
المذكر والمؤنث ده .

مُضَيَّرِيْبٌ كَيْفَ هُوَ ضَمِيرٌ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ غَائِبٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ مُسْتَرَجَانُزٌ اَلِاسْتِنْسَارِ .  
مُضَيَّرِيْبٌ كَيْفَ هِيَ ضَمِيرٌ وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ مُسْتَرَجَانُزٌ اَلِاسْتِنْسَارِ .  
مصدر :- اسم طرف او اسم آلكيے ضمير نہ وی ۔ فعل تعجب كئے اختلاف دے ۔ دغہ شان د  
اسم تفضیل وغیرہ ضمائر د اسم فاعل وغیرہ پہ ضمائر و باندے قیاس کرئی ۔  
ضروری خبرہ :- ہر کلمہ چہ د اسماء صفاق نہ و پاندے خہ ضمیر مرفوع منقصل ل

نزدے كئے یہ ہفہ ضمیر نہ وی کوم چہ منکئی و و ۔ بلکہ ہفہ ضمیر بہ وی کوم چہ منکئی دے  
لکہ : اَنَا عَابِدٌ كَيْفَ هُوَ ضَمِيرٌ بِه نَهْ اَوْی ۔ بلکہ اَنَا ضَمِيرٌ دِ وَاحِدٌ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ مُسْتَرَجَانُزٌ  
جَانُزٌ اَلِاسْتِنْسَارِ بِه وَی ، نَعْنُ ۔ اَقْرَبُ كَيْفَ ضَمِيرٌ دَ هُوَ نَهْ دے بِلْکَ ضَمِيرٌ دِ عَن مَرْفُوعٌ  
مُتَّصِلٌ مُسْتَرَجَانُزٌ اَلِاسْتِنْسَارِ بِه وَی ۔

بِنَحْمِهِ قَائِدٌ :- د مجہول فعل تعریف :- دا ہفہ فعل دے چہ فاعل لے حذف کرے شی  
او مفعول د ہفہ قائم مقام اوگر کولے شی ددے آسان تعبیر دادے چہ فعل مجہول ہفہ تہ وائی  
چہ پہ ہفہ كئے کار کونکے معلوم نہ وی ۔ لکہ : قَتَلَ زَيْدٌ (زید قتل کرے شو) اوس د زید  
قاتل معلوم نہ دے ۔ یا کار کونکے خو معلوم وی لیکن ذکر نہ وی لکہ : خُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا  
اوس د انسان پیدا کونکے ذات (اللہ تعالیٰ) قولوتہ معلوم دے ۔ لیکن منکئی د اللہ پاک نوم  
ذکر نہ دے ۔ پہ دے وجہ سرہ د فعل مجہول صیغہ استعمال شوہ ۔  
شیرمہ قائدہ :-

### د فعل متعدی او فعل لازمی پہ میخ کئے د فرق معلومولو طریقہ

۱۔ فعل لازمی :- ہفہ دے چہ د ہفہ د وجود د پارہ یوسرے یا یوخیز کافی وی ۔  
مثال :- جَاءَ زَيْدٌ ۔ زَهَبَ زَيْدٌ ۔

اوس تل رائل داسے یو فعل دے چہ ددہ وجود د پارہ یوسرے کافی دے ۔

۲۔ فعل متعدی :- دا ہفہ فعل دے چہ د ہفہ د وجود د پارہ کم نہ کم دوہ سری یادوہ  
خیزونہ پکار وی ۔ مثال : قَتَلَ ۔ ضَرَبَ وغیرہ فعل متعدی دی ۔ حُكْمٌ فِي دَضْرِبٍ وَالْاَفْعَالِ  
بہ ہل موجود کیدی کلمہ چہ یوسرے و ہل کونکے اوبل سرے و ہل کیدونکے موجود وی ۔  
دغہ شان د قَتَلَ وَالْاَفْعَالِ بِه پہ دنیا كئے ہل موجودین ی ۔ کلمہ چہ یوسرے قتل کولو والا اوبل

سرے قتل کیدو ولاد موجود وی، مثال:- قَتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا - دیکرہ غویان حضرات خُدا تبارک و تعالیٰ کی بیانی۔

فعل لازمی ہفہ دے چہ ہفہ پہ فاعل باندے پورہ شی اورد مفعول بہ ضرورت نہ وی، نوفعل متعدی ہفہ دے چہ پورے پہ فاعل نہ پورہ کیری بلکہ د مفعول بہ ہم ضرورت ویکرہ مثال:- اَکْرَمَ (اکرام اوکرہ ہفہ یوسری) دافعل متعدی دے حکم چہ ددہ دوجود دپارہ کم نہ کمر دوہ کسان ضروری دی۔ یو اکرام کونکہ اربل ہفہ چہ د ہفہ اکرام اوشی۔

یوبل فرق :- د فاعل متعدی پہ معنی کچہ عام طور باندے اردو ترجمہ کچہ لفظ د (خبر) را لک :- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا (زید نے عمرو کو مارا) اورد فعل لازم پہ اردو ترجمہ کچہ لفظ دے، نہ راجی۔ لک :- قَامَ زَيْدٌ (زید کھڑا ہو گیا)۔

د فاعل معنوی علامت :- چہ پہ ہفہ کچہ دکار کولو صلاحیت وی لک :- اَكَلَ الْكُمُثْرِيَّ يَحْيَىٰ (یحییٰ امرود اوخو رہو) اوس دلنہ کچہ یحییٰ فاعل دے نہ چہ کمشری۔ حکم چہ د خوراک صلاحیت پہ یحییٰ کچہ دے نہ چہ امرود کچہ۔

اورومہ فائدہ :- نحو میر، ہدایۃ النحر، کافیا او دغی پہ اکثر و کتابوں کچہ داخبرہ لیکل شوی دہ۔ چہ فاعل پہ دوہ قسمہ دے، اسم ظاہر (مظہر) اسم ضمیر (مضمیر) داخبرہ صرف دوہ صیغو (واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب) سرہ متعلق دہ۔ یعنی ددغہ دوہ صیغو فاعل اسم ظاہر ہم کیدے شی او اسم ضمیر ہم۔ باقی ددو لئو صیغو فاعل خود ہیشہ دپارہ ضمیر وی۔

اتبہ فائدہ :-

### د فعلیہ جملہ اقسام

۱. مُصَدَّرَةٌ - شروع کرے شوی، بالافعال المطلقة (افعال مطلقہ نہ مراد ہفہ افعال دی کرم چہ افعال قلوب او افعال ناقصہ نہ علاوہ دی)

(۱) د فعل معلوم مثال:- خَلَقَ اللَّهُ (۲) د فعل مجہول مثال: خَلَقَ الْإِنْسَانُ أَنْ ضَعِيفًا نَجْرًا :- مُصَدَّرَةٌ بالافعال القلوب - مثال: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَاقِلًا يَعْزُبُ عَنْهَا يَحْمِلُ الْغَلِيْمُونَ (بنا)

نمبر ۲:- مُصَدَّرَةٌ بالافعال الناقصة - مثال:- وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا -

نمبر ۳:- مُصَدَّرَةٌ بالافعال المعاربت - مثال:- عَسَىٰ رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا -

نمبر ۴:- مُصَدَّرَةٌ بالافعال المدح والذم - مثال:- قَنِعَمَ الْمُؤْمِنُ وَالنَّفْسَ الشَّعِيرَةَ -

نمبر ۵:- مُصَدَّرَةٌ بالافعال التعجب - مثال:- أَسْمِعْ يَحْيَىٰ وَأَبْصِرْ (ای اے یحییٰ! سنو اور دیکھو)۔

## د اسمیہ جملے علامات اور ہفتہ داخل کولو طریقہ

**د اسمیہ جملے تعریف:** - ہفتہ جملے تہ ویل کبریٰ چہ ہفتہ ہومیہ جز اسم وی۔ دویم جز عام د کہ ہفتہ اسم وی یا فعل وی۔ مثال: - **اللَّهُ سَمِيعٌ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ**

**علامات:** - نمبر ۱: - ضمیر مرفوع منفصل چہ کوہجائے کجے راشی۔ ہفتہ بہ ہمیشہ د پارہ مبتدای وی اوہفے نہ پس چہ کوہ لفظ وی ہفتہ بہ خبر وی۔ پہ دے شرط چہ ہفتہ ضمیر مرفوع منفصل د ضمیر مرفوع متصل د پارہ تکیڈتوی، او فصل د پارہ نہ وی، لکہ **ضَرَبْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ ، ضَرَبْتُ أَنَا وَفِيْدٌ**۔ او د خبر پہ معنی کجے "ہے" "ہیں" او د "ہوں" اردو کجے الفاظ راجی۔

مثالونہ: - **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ - هُوَ الَّذِي أَخْلَقَ الْبَارِيَّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - هِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ - هُوَ مَعْرَبٌ وَمُبْنِيٌّ**۔

**نمک:** - چہ د کلام پہ شروع کجے الف لام والا اسم وی اوہفے نہ پس بغیر الف لام نہ یواسم راشی نو شروع والد اسم پہ مبتدای وی او دویم اسم بہ خبر وی۔ د کلام پہ شروع کجے دکید و مطلب دادے چہ ہفتہ جائے نہ خہ فرے خبرہ شروع شرے وی۔

مثالونہ: - **اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لَدُنِّيَا سَجُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَّتِ الْكَافِرِينَ۔** القرآن حجة لك او عليك۔  
**نمک:** - چہ د کلام پہ ابتداء کجے مضاف مضاف الیہ راشی اوہفے نہ پس بغیر د الف لام نہ خہ اسم راشی۔ نو دا بہ خیلو کجے مبتدای او خبر جوہر پیری۔ مثال: - **خِيَارُ الشَّرِّ جَانِزِي الْبَيْعِ - صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ۔**

**نمک:** - چہ د کلام پہ شروع کجے الف لام والا اسم وی اوہفے نہ بعد فعل راشی۔ نو دا بہ ہمیشہ د پلٹ مبتدای خبر وی۔ مثالونہ: - **الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْإِدْبَابِ وَالْقَبُولِ۔ النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِدْبَابِ وَالْقَبُولِ۔**

**نمک:** - چہ د کلام پہ شروع کجے الف لام والا اسم وی۔ اوہفے نہ بعد جار مجرور راشی نو دا بہ ہمیشہ مبتدای خبر گری۔ خو پہ دے شرط چہ د جار مجرور تہ پس یوبل لفظ د خبر جوہرید لوصلتہ نہ لری۔ مثالونہ: - **الشَّرِكَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (اقتسامين) (قدوری کتاب الشَّرِكَةُ) ، اَلطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ۔ (قدوری کتاب الطَّلَاق) اَلصُّلْحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْرِبٍ (قدوری کتاب الصَّلْح)۔**

**فائدہ:** - دے علامتوں تہ معلومہ شوہ چہ شرح مانہ عامل کجے ہفتہ حروف جارہ چہ ہفتہ نہ پس د ہفتہ معنی د جار مجرور پہ شکل کجے ذکر وی۔ نو ہفتہ حروف جارہ مبتدای د ہ - او د ہفتہ معنی لے خبر دے لکہ: - **اَلْبَاءُ لِلْإِصْطِقِ ، مِنْ لَابِتْدَارِ الْغَايَةِ - اِلَى - لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ اَوَّلِ الْقِسْمِ**

**قائل:** - کہ چہ جار مجرور پہ مقام د خبر کجے وی۔ نو طرف مستقر بہ خبر وی او د ہفتہ متعلق بہ محذوف وی او د ہفتہ متعلق اسم ہم راویستے شی۔ او فعل ہم۔ او متعلق بہ پہ مذکر، مؤنث، افراد، تشبیہ اوجیع کجے مطابق د مبتدای وی۔ یعنی کہ چہ مبتدای مذکر وی یا مؤنث وی نو د خبر،

متعلق بہ ہم مذکر یا مؤنث وی - لیکن اعراب د متعلق بہ مطابق د خبر کہ وی - لہذا ہفہ خبر و نہ  
(جمع خبر) چہ کوم مرفوع وی - مثلاً خبر د مبتداء، خبر د حروف مشبہ بالفعل، خبر د لئے نئی خبر  
نود دے متعلق بہ ہم مرفوع وی - او ہفہ خبر و نہ کوم چہ منصوب وی - مثلاً افعال ناقصہ او د مآ  
و لا مشبہتان بلیس خبر - نود دے متعلق بہ ہم منصوب وی -

مثال :- زَيْدٌ فِي الدَّارِ، اِي ثَبَّتْ اَوْ ثَابِتٌ فِي الدَّارِ -

سوال :- تاسو دوه متعلقہ ولے را او بیکل دی ؟

جواب :- دا حکم چہ کلہ طرف مستقر پہ مقام د خبر کینے واقع وی نود ہفے پہ متعلق کینے اختلاف دے  
اوهفے کینے دوه مذہبہ دی - یومذہب د بصر یا نودے او بل مذہب د کوفیا نودے - بصر یا نوالی چہ مورب  
دے متعلق فعل را او باسو او کوفیا نوالی چہ مورب دے دے متعلق اسم را او باسو - لہذا امرتہ د دواہر  
مذہبونی رعایت او کہو او دوه متعلقہ مو را او بیکل .

سوال :- مذکر مو ولے را او بیکل دے ؟ جواب :- دا حکم چہ مبتداء مذکر دہ .

سوال :- تاسو پہ متعلق (ثابت) باندے رفع ولے لوستلے دہ ؟

جواب :- دا حکم چہ خبر د مبتداء مرفوع دے - نود دے متعلق بہ ہم مرفوع وی - ہم پہ دے باندے  
فَاطِمَةٌ فِي الدَّارِ قِيَّاسِ كَرِهٍ - لیکن دلہ کینے بہ متعلق مؤنث را او باسو - حکم چہ مبتداء مؤنث دہ، نواصل  
عبارت بہ داستان وی - فَاطِمَةٌ فِي الدَّارِ - اِي ثَبَّتَتْ فِي الدَّارِ ، اَوْ ثَابِتَةٌ فِي الدَّارِ .

فائدہ :- ہفہ حروف جارہ کوم چہ مبتداء کرچی اوهفے نیس د ہفوعے معنی کوم چہ دجا ہرور  
پہ شکل کینے طرف مستقر وی او پہ مقام د خبر کینے وی . مثلاً الباء للالصاق نود ہفوعے متعلق  
بہ ہم مؤنث را او باسو حکم چہ حروف ہول پہ ہولہ مؤنث سماعی دی او اصل عبارت بہ داستان وی  
الْبَاءُ لِلالصاقِ اے ثَبَّتَتْ اَوْ ثَابِتَةٌ لِلالصاقِ .

قائد ۵ :- پہ مقام د خطبو کینے کوم حُلے چہ د الحمد لفظ نہ پس جار مجرور واقع شوی وی  
نود اتول بہ خپلو کینے مبتداء خبر وی - مثال :- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - اَلْحَمْدُ لِرَبِّی .

نمبر ۶ :- کلہ چہ د اسم اشارے نہ پس بغیر الف لام نہ یو اسم راشی نواسم اشارہ بہ مبتداء  
وی او مابعد بغیر الف لام والا اسم بہ د ہفے د پارہ خبر وی پہ د شرط چہ معنی لے صحیح وی .

مثالونہ :- هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ - هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ ، فَهَذِهِ قُرْآنٌ وَأَقِيبَةٌ (شرح جار)  
نمبر ۷ :- کلہ چہ پہ شروع د کلام کینے جار مجرور راشی - نو ہفہ بہ خبر مقدم وی او مابعد

بہ مبتداء مؤخرہ وی - مثال :- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (پ) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِجَالٍ  
صَدَقُوا (پ) فِي الْقُرْآنِ اَرْبَعَةٌ عَشَرَ سِجْدَةً .

نمبر ۱۱ - پہ کتابوں کو کینے چہ خومرہ عنوانات دی ہف عام طور سرہ خبر دے۔ د مبتدا، محذوفیہ  
د پارہ۔ یا پچھل مبتدا د ۵۰۔ اوخبر د ہفوعے محذوف وی۔

مثالونہ:- کتاب الصلوٰۃ اے هذا کتاب للصلوٰۃ - او کتاب الصلوٰۃ هذا۔ کتاب الطہارۃ، کتاب الحج  
باب الاذان وغیرہم پہ دے مثالونیا ندے قیاس کرئی۔

نمبر ۱۰:- کلہ چہ دیو نوم نہ پس بغیر الف لام نہ یواسم راشی خواہ کہ دغہ اسم معرفہ یا نکرہ  
وی نو دابہ پہ خپلو کینے مبتدا رخبر وی۔

مثالونہ:- وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ، اِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللّٰهِ، اِسْمَاعِيلُ ذِي النُّجُودِ  
موسئ کلیم اللہ - عیسیٰ روح اللہ - ادم صفی اللہ۔

نمبر ۹:- ہر کلہ چہ دیو خیز اول کینے تقسیم وی یاد یرخیز تعداد بیان پری او بیا ہف نہ پس  
د دغہ خیز تفصیل وی، نو پہ تفصیل کینے بہ ہر یو خیز خبر کرچی د مبتدا، محذوفیہ د پارہ۔  
مثالونہ:- الاسم على نوعين معرب ومبني (ای احدهما معرب وتانيهما مبني)  
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة ميا و ماء السماء و ماء البحر و ماء ذاب من الثلج  
(ای احدهما ماء السماء وتانيهما ماء البحر الخ)

نمبر ۸:- کلہ چہ پہ مقام د جزا کینے فاء جزائیہ نہ پس جار مجرور راشی نو دابہ خبر مقدم وی  
او مابعد اسم بہ مبتدا، مؤخرہ وی۔

مثال:- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا - مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ - وَمَنْ صَلَّى  
قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اجْرِ الْقَائِمِ - وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اجْرِ الْقَاعِدِ . (تحفة الاخيار)

نمبر ۱۲:- کلہ چہ د آن او این وغیرہ نہ پس متصل جار مجرور راشی نو ہف بہ خبر مقدم  
وی او مابعد لفظیہ اسم مؤخر وی۔ مثال:- اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ - اِنَّ  
مِنَ الْبَيَانَ لَسِحْرًا - اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٌ - اِنَّ الْيَتٰى اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا جِسَابَهُمْ -

نمبر ۱۳:- خومرہ معرفات چہ دی ہف نول مبتدا وی او تعریفیہ مکمل خبر وی۔ مثال: الكلمة  
لفظ وضع لمعنى مفرد - الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد .

نمبر ۱۴:- کلہ چہ آتما نہ پس یواسم راشی نو ہف ہمیشہ مبتدا وی او ہف نہ پس چہ لفظ  
وی ہف بہ کے خبر وی۔ مثال:- اِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ - اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ - اِنَّمَا اَنَا  
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .

نمبر ۱۵:- کلہ چہ د آما نہ پس یواسم راشی نو ہف بہ مبتدا وی او قائم مقام د شرط بہ وی، او  
قآ نہ پس چہ کو م اسم وی ہف بہ خبر وی او قائم مقام د جزا بہ وی۔ خو شرط پکینے دادے چہ آما

نه پس چه کوم اسم راشی چه هغه ظرف یعنی د بَعْدَ وغيره لفظانه وی .

مثال :- أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ ففي المبادئ التي يجب تقديمها . (هداية النحو)

نمبر ۱۶ :- کوم جائے کچھ مہم جار مجرور ذکر شی او مراد ترمینہ ہم لفظ واخیتہ شی نہ چہ معنی

د هغه اوبیا د هغه نه پس د هغه مہم لفظ تفسیر اوشی . نو هغه جار مجرور بہ مبتدا اوی اوهغه

تفسیر بہ هغه د پیارہ خبر وی . مثال :- فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنطِقُ الغزاةِ .

مثال :- في الرقاب ان يعان المكاتبون .

نمبر ۱۷ :- کله چه د لَيْسَ یعنی افعال ناقصونہ پس جار مجرور راشی نو هغه بہ خبر مقدم وی

اوهغه نہ پس اسم بہ مبتدا مؤخره وی . خو شرط دادے چه ضمیر هغه د پیارہ اسم نہ وی .

مثال :- لَيْسَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ . (قدوری کتاب الطهارة)

نمبر ۱۸ :- لفظ د نَحْوُ د ما قبل مبتدا، محذوفی د پیارہ خبر وی او ما بعد طرف تہ مضاف وی

او مبتدا د هغه مثالها یا مثاله محذوف بہ وی .

مثال :- نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى - اَنْكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ - نَحْوُ كِتَابِكُمْ بِالْقَلَمِ .

نمبر ۱۹ :- هر کله چه پس د مبتدا تہ یو فعل راشی نو دغه فعل بہ د مبتدا د پیارہ خبر وی .

مثال :- وَكَذَلِكَ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ .

نمبر ۲۰ :- کله چه پس د مبتدا نہ اَنّ راشی . نو دغه اَنّ سره د فعل بہ تأویل د مصدر

خبر کرکے د مبتدا د پیارہ . مثال :- افضل الصدقة ان تشيع كيدا جائعا . (زاد اللطالبيين)

نمبر ۲۱ :- هر کله چه د مثال پہ شروع کچھ کوم یو لفظ رک، راشی نو هغه بہ ثَبَّتْ یا ثَابِتٌ مَرْتَبَتًا

او د پیارہ خبر وی د مبتدا، محذوفی مثالها یا مثاله د پیارہ . مثال :- كَالْحَلِ .

نمبر ۲۲ :- د داد استیناف علامت دے . یعنی د نوع خبرے د شروع کیدو علامت دے .

علامت نہ لاندے چه کوم جار مجرور راشی نو هغه بہ خبر مقدم وی او ما بعد اسم چه هغه د پیارہ

مبتدا، مؤخره وی . (مثال :- وفي اللسان الدِّيَّةُ وفي شعر الرأس الدِّيَّةُ (قدوری کتاب الدیات)

نمبر ۲۳ :- هر کله چه یو حرف ذکر شی او مراد ترمینہ ہم حرف واخیتہ شی نہ چہ معنی اوبیا هغه نہ پس

د ایسے یو جار مجرور راشی چه د دغه حرف اصطلاحی معنی بیانوی نو د پیارہ ہم خپلو کچھ مبتدا اول

خبر چرین وی . مثال :- فان للاستقبال ان لتكيد نفي المستقبل . ان للشرط والجزاء .

قائمه ۵ :- په ذکر شوی مثالونو کچھ د دغه حرفونو معنی مراد نہ ده بلکه لفظ مراد دے .

مثلا "ان" معنی ده وکچرے . نو دلته کچھ دغه مراد نہ ده بلکه لفظ د "ان" مراد دے .

او کله چه فعل یا حرف ذکر شی او مراد ترمینہ د فعل او حرف الفاظ واخیتہ شی نو هغه اسم کرکے

بلکہ د فعل او حرف الفاظ دخلے مسئی د پارہ عَلَّمَ كَرَّمَ۔ لہذا د فعل او حرف لفظ مبتداء او فاعل وغیرہ جو ریڈل صحیح دی۔

نمبر ۱۲۴۔ کلہ چہ فعل ذکر شی او مراد ترمینہ لفظ واخبتے شی نہ چہ معنی۔ اوہنے نہ پس یو دایمہ لفظ راشی چہ ہفہ د فعل د صیغہ شناخت کوی نو دغہ لفظ ہم خپلو کیتے مبتداء او خیر جو پینزی۔ مثال: - ضَرَبَ صَيْفَهُ مَاضٍ - يَضْرِبُ صَيْفَهُ مُضَارِعٍ -

### د اسمیہ جملے اجراء

استاذ:۔ د اسمیہ جملے مثالونہ را او یاسی؟

شاگرد:۔ الرحمن علم القرآن۔ انما المؤمنون اخوة، ان من البیانا لسحرا۔

استاذ:۔ پہ اولنی مثال کیتے الرحمن ترکیب کیتے خہ واقع شوی دے؟

شاگرد:۔ مبتداء واقع شوی دے۔

استاذ:۔ تاتہ خنک معلوم شوی چہ دامبتداء دے؟

شاگرد:۔ ماتہ د اسمیہ جملے د خلورے علاقے نہ معلوم شوی او ہفہ دادہ چہ پہ کلام کیتے

اللفلام والا اسم وی او ہفہ نہ پس فعل وی نو ہفہ پہ خپلو کیتے مبتداء او خیر کر گئی۔

باقی د عَلَّمَ القرآن ترکیب د فعلیہ جملے د حل کیدو نہ معلوم شوی۔ ہفہ دا چہ عَلَّمَ پہ

پہ دو و کیتے دے او پہ میخ کلام کیتے دے حکہ چہ خبر د مبتداء دے نو فاعل دے ضمیر

د صے او القرآن مفعول پہ دے حکہ چہ د باقی خلور مفاعیلو تعریف پہ دے باندہ نہ

صادقینزی۔

استاذ:۔ ہرکچہ د مبتداء او خیر شناخت او شوی نو اوس پورہ ترکیب اوکھی؟

شاگرد:۔ الرَّحْمَنُ مَبْتَدَاؤُ عِلْمَ فَعْلٍ - هُوَ ضَمِيرٌ لِي فَعْلٍ شَو - لِقُرْآنٍ مَفْعُولٌ بِهٍ شَو - فَعْلٌ سَرَدٌ

فَاعِلٌ اَوْ سَرَدٌ مَفْعُولٌ بِهٍ نَهْ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ د مَبْتَدَاؤُ شَو - مَبْتَدَاؤُ سَرَدٌ د خَبْرِيَّةٌ جَمَلَةٌ

اسمیہ خبیریہ شوی۔

استاذ:۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ - پہ دے کیتے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ پہ ترکیب کیتے خہ واقع شوی دے؟

شاگرد:۔ مبتداء واقع شوی دے۔ ، استاذ:۔ تاتہ خنک معلوم شوی؟

شاگرد:۔ د خوارسجے علاقے نہ راتہ معلوم شوی چہ دامبتداء دے۔ ہفہ دادہ چہ د اِنَّمَا

پس کوم یو اسم راشی نو ہفہ پہ مبتداء وی او ہفہ نہ پس چہ کوم یو لفظ وی نو ہفہ پہ

خبر وی۔

استاذ:- مختصر ترکیب اوکرہ ؟

شاگرد:- اِنَّمَا كَلِمَةٌ حَصْرَ الْمُؤْمِنُونَ مَبْتَدَأً - اخوةٌ لِيْ خَيْرٌ شَوْ - مَبْتَدَأُ سِرَّهُ دَخِيرٌ نَزْجَلُهُ  
اسمیه خبریہ شوه .

استاذ:- ترجمہ لے اوکرہ ؟ - شاگرد - بیشک قول مؤمنان خپلو کئے رومپہ دی -

استاذ:- اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - من البيان تركيب كنه خه واقع شوه دے ؟  
شاگرد:- داخیر مقدم دے - استاذ:- تاہ خنک معلومہ شو؟

شاگرد:- ددولسے علاقے نہ . استاذ:- دولسمہ علامہ خہ دہ ؟

شاگرد:- هرکله چه د انا او انا اونور حروف مشبہ بالفعل نہ پس جار مجرور راشی نو  
هغه بہ خیر مقدم وی او مابعد اسم بہ ورلہ مَبْتَدَأُ مؤخرہ وی -

### فائل ۵ :- اسمیہ جملہ پہ خلوص قسمہ دہ .

(۱) مُصَدَّرَةٌ بِالْمَبْتَدَأِ - مثال - هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ .

(۲) مُصَدَّرَةٌ بِالْحُرُوفِ الْمَشْبَهَةِ بِالْفِعْلِ - مثال :- اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

(۳) مُصَدَّرَةٌ بِالْحُرُوفِ مَا وَلَا الْمَشْبَهَاتِ بَلِيسَ - مثال : ما هَذَا بَشَرًا - لَا رَجُلٌ أَفْضَلُ مِنْكَ .

(۴) مُصَدَّرَةٌ بِالْمَنْصُوبِ يَلَا الَّتِي الْنَفْيُ الْجِنْسِ - مثال لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ -

### فائل ۶ :- علامات دلائے نفی جنس د پارہ :-

مصدر :- اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبہ وغیرہ باندے چه کوم لا داخلین ہی هغه عام

طوری باندے لائے نفی جنس وی - مثال دمصدر :- لَا رُبَّيْ فَيَّرِ ، مثال داسم فاعل :- فَلَ

مُرْسِلٍ لَهْ - لا هادي لَهْ ، مثال داسم مفعول :- لا معبود الا هُوَ - ولا مسجور الا هُوَ .

مثال د صفت مشبہ :- لا حَكِيمٌ الا ذُو عَجْرِبَةٍ ، لا حَلِيمٌ الا ذُو عَشْرَةٍ .

### د شرطیہ جملے د ترکیب حل کولو طریقہ :-

فائل ۷ :- اِنْ ، اَوْ ، لَوْ دا دواہ عام طور باندے بشرط د پارہ مستعملین ہی . او مَن - ما - اَنْتَ

لَيْنٌ - اَنْتَ اِذْمَا - حَيْثَمَا - اَيْنَمَا او اذا وغیرہ - دا اسماء کلہ بشرط د پارہ ہم استعمالین

فائل ۸ :- حروف شرطیہ وی او کہ اسماء شرطیہ وی - دا ہمیشہ د پارہ پہ دور جملو باندے داخلین

لَوْ جملہ تہ شرط او د وھ جملہ تہ جزاء وائ - مَثَلٌ فَهَذَا اِسْتَحْصَرَ الخ

فائل ۹ :- شرط بہ ہمیشہ جملہ فعلیہ وی حکمہ چه شرط تعلق د پارہ وی او تعلق پہ زمانہ کئے وی

او زمانہ پہ فعل کئے وی - پردے وجہ بہ شرط ہمیشہ فعل وی - لیکن جزا پہ کلہ جملہ اسمیہ وی - او کلہ

بہ جملہ فعلیہ وی - وپا تہ بی عام دہ کہ هغه جزاء مذکورہ وی یا محذوفہ وی .

و تعلق انا بعد

**اہمہ فائلک :** - د شرط پہ جزاء باندے د فاء د داخلو درے قسموں دی۔ واجب، جائز، منع

۱۱۔ واجب پہ لئس مقاما تو کینے د شرط پہ جزاء باندے د فاء داخلو واجب (یعنی ضروری) دی۔  
 ۱۲۔ د شرط جزا بہ جملہ اسمیہ وی۔ لک :- **فَمَنْ تَعَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَلْبَسَكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ** (پ) **وَمَنْ تَشَبَهَ بِعَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ** (ابرداؤد)۔ **وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَزِرْهُ فَلَابِغٌ جَائِزٌ** (ہدایہ ثالث ص ۲۵)  
 ۱۳۔ امر بہ وی۔ لک :- **فَإِذَا قرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**۔

**إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ**۔ (الاسیہ)۔

**إِذَا أَكَلْتُمْ أَحَدَكُمُ فَأَلْبَسْ كُلُّكُمْ بِبِمِينِهِ وَإِذَا شَرِبْتُمْ فَلْيَسْرِبْ بِبِمِينِهِ**۔

۱۴۔ نفی بہ وی۔ مثال :- **وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَوْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ**۔ (پ)۔

**وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوَدُّ زِنَاهُ**۔ (الحدیث)۔

۱۵۔ دعاء بہ وی۔ مثال :- **إِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا** :- **إِنْ أَشْرَبْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا**۔

**إِنْ أَلْعَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا** :- **إِنْ عَلَّمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا**۔

۱۶۔ د ماضی پہ شروع کینے بہ لے لفظ د قد وی۔ و پاندے عام دہ کہ مذکور وی او کہ محذوف وی

مثال د قد مذکور :- **وَإِنْ يُكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ** (پ)۔

**مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ**۔ **وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ**۔

مثال د قد محذوف :- **إِنْ كَانَ قَوْمِيضُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكُذِّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ** ای **قَدْ كُذِّبَتْ**

۱۷۔ د شرط جزاء بہ د ماضی ہفہ صیغہ وی چہ د ہفہ پہ شروع کینے حرف نفی وی۔

مثال :- **فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي**۔ (پ)۔

۱۸۔ د مضارع پہ شروع کینے بہ لفظ د سین وی۔ مثال :- **وَإِنْ نَعَاَسْتُمْ فَتَرْضَعُ لَكُمْ أُخْرَى**۔

۱۹۔ د مضارع پہ شروع کینے بہ سوف وی۔ مثال :- **وَإِنْ اسْتَمَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي** (پ)۔

۲۰۔ مؤکدہ بالئن ناصبہ صیغہ بہ وی۔ مثال :- **وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ**

**وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ**۔

۲۱۔ فعل جامد بہ وی یعنی فعل غیر منصرف (چہ د ہفہ بالکل گردان نہ کیری یا صرف ماضی را حئی)

لک :- **نَعَمُ ، بَيْسَ ، لَيْسَ وَغَيْرِهِ**۔ مثال :- **إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ** (پ)۔

**مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنِّي**۔ (بخاری)

**فائلک ۵ :-** پہ اسمیہ جملہ کینے پہ کائے د فاء باندے کلہ اذا ہم را حئی۔ مثال :- **وَإِذَا دُعُوا إِلَى**

**اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ** (پ)۔

۲۲۔ جائز :- پہ دوو مقاماتر کینے د شرط پہ جزاء باندے د فاء داخلو جائز دی۔ یعنی د فاء را وزل

اونہ راوہل دواہ جائز دی۔ لہ چہ مضارع مثبت وی۔ (۲۱) چہ مضارع منفی وی۔  
عقلی صورتی نہ قول شلور جور شول :

۱۱۔ جزاء چہ مضارع مثبت وی اوپہ ہفے ہاندے فاء داخل وی۔ مثلاً:- وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِّتُمْ قَلِيلًا  
وَمَنْ عَادَ فَيَمُوتْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَذُكُّهُ جُنْدٍ مِنْ رَبِّهِ الَّذِينَ فِيهَا أَلَمٌ لِمُتَّعِيهَا  
يَسْمَعُ كَلِمَةَ الْكَافِرِ - وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (۲۲) جزاء چہ مضارع مثبت وی لیکن ہفے ہاندے فاء داخل نہ وی۔ مثلاً: اِنْ تَقْرَأْ  
مَنْفِی وی اوپہ ہفے ہاندے فاء داخل وی۔ مثال: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبْتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا . (پ ۸)

۱۲۔ جزاء چہ مضارع منفی وی اوپہ ہفے ہاندے فاء داخل نہ وی۔ مثال: وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى  
الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ . (پ ۱) ، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ

**ممتنع :-** یہ دو مقامات پر کچھ د شرط پر جزاء ہاندے فاء داخل منع دی ،

۱۔ چہ کہ ماضی مثبت بغیر دقذ نہ وی یعنی قذ نہ ملفوظ وی اونہ مقدر۔

مثال:- اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ . (پ ۱) ، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا عَشْرًا ،  
مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَّا اللَّهُ لَهُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ -

۱۲۔ نفی جحد بلتم صیغہ وی۔ مثال :- مَنْ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ - ، مَنْ قَتَلَ مُعَاوِيَةَ  
لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

**ضروری خبر :-** دے وجہ نہ د بندہ خبرہ یادہ ساتی چہ عام استعمال کے جزاء کہ چرے د

ماضی صیغہ وی یاد نفی جحد بلتم صیغہ وی۔ نودابہ ہفے وی چہ د ہفے پہ شروع کئے وی۔ فاء، نُذْرٌ  
وغیرہ نہ وی یعنی حرف عطف کے صحیح یوحرف نہ وی۔ لہذا کہ شرط نہ پس د ماضی یاد نفی جحد  
بلتم پہ صیغہ کئے پہ شروع کئے وی۔ فاء او ثَمَّ وغیرہ وی تو پھر شہ چہ داصیغہ د جزاء نہ  
دہ۔ بلکہ جزاء پہ ورائے راجی۔ او دا وَاوَفَاءُ او ثَمَّ وغیرہ حرف عطف کئے دی، او د وی  
ما بعد فعل پہ عطف وی پہ ماقبل فعل شرط ہاندے۔

د اقسام مثالرنہ ہدایہ او قدوی او دعویٰ پہ نور کتابنر کئے ہیر زیات موجود دی۔ لہذا

پہ دے کئے دوہ مثالرنہ د نعرے پہ لمور ہاندے ستاسو پہ خدمت کئے پیش کر لے شی ۔

مثال :- وَإِنْ تَلَّهَا (اے ایۃ السجدۃ) فَسَجَدْ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَّهَا سَجَدَ لَهَا .  
اھدایہ ص ۱۲۷) اوس پہ دے جملہ کئے جزاء د سجد لھا، دہ۔ حکمچہ د دے پہ شروع کئے فاء  
وَارِ ثَمَّ وغیرہ کئے صحیح یوحرف نشہ۔ ماقبل فعل یعنی فَسَجَدَ۔ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ۔ فَتَلَّهَا  
د ا شرط د ہاں جزاء نہ شی جوریدے۔ حکمچہ جزاء کئے چہ د ماضی صیغہ وی۔ نودابہ ہفے وی  
چہ د ہفے پہ شروع کئے وی۔ فاء، ثَمَّ وغیرہ نہ وی۔ کئے خبر پہ ماضی (دَخَلَ) ہاندے

لَمْ يَدْخُلْ دَعَا - او باقی دماضی پہ دوو صیغو «فَسَجَدَ» ، «تَلَّهَا» باندے فاء داخلہ۔ لہذا  
د ا فاء او تَمَّ عاطفہ دی او دووی مابعد فعل بہ عطف وی پہ ماقبل فعل شرط باندے چہ  
هغه تَلَّهَا دے «کوم چہ د اِنَ مَدْخُولٌ دے»۔

مثال نمبر ۲ :- وَمَنْ تَلَّهَا سَجْدَةً فَلَيْمَ يَسْجُدْهَا حَتَّى دَخَلَ فِي صَلَوَتِهِ فَأَعَادَ طَوَّاسُ سَجْدَةَ اجْزَائِهِ  
السَّجْدَةِ مِنَ التَّلَاوَتَيْنِ . (ہدایہ اہل مکہ) .

اوس پہ دے مثال کیے جزاء «فَلَمْ يَسْجُدْهَا» نہ دے۔ حکم چہ کہ چرتہ جزاء دلفی سَجْدَ  
بَلَوْمَ پہ صیغہ باندے فاء داخلہ وہ فر معلومہ شوہ چہ د ا فاء جزائیہ نہ دے۔ بلکہ فاء عاطفہ دے۔ او  
د دے د مابعد فعل «لَمْ يَسْجُدْهَا» عطف پہ ماقبل فعل شرط «تَلَّ سَجْدَةً» باندے دے۔  
او د دے جزاء «أَجْزَأْتَهُ السَّجْدَةُ عَنِ التَّلَاوَتَيْنِ» دے۔ حکم چہ مخکنے موبن عرض کہے و و ،  
چہ کہ چرے جزاء د ماضی صیغہ وی نو داپہ هغه وی۔ چہ د هغه پہ شروع کیے وَاو ، فاء۔ تَمَّ وغیرہ  
حروف عاطفہ کیے ہیچ یو حرف نہ وی۔ او هر کلمہ چہ د دے (اجزائتہ) پہ شروع کیے ہم وَاو ، فاء  
، تَمَّ وغیرہ حروف عاطفہ کیے ہیچ یو حرف نشہ۔ نو لہذا جزاء بہ ہمدای ۔

## د شرطیہ جملے آسان تعریف

د شرطیہ جملے آسان تعریف هغه دے چہ پہ هغه کیے یو کار معلق کہے شی۔ بیا د معلق کو لو  
دو صورتیں دی۔ ۱۔ عام طور پر باندے د جزاء فعل معلق کہے شی د فعل شرط پورے۔  
مثال :- اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ كَالِقِ (کہ چرے تہ کہہ تہ داخل شوے نو تہ دے طلاق دے) لہذا  
د جزاء فعل معلق شوے (چہ هغه وقوع د طلاق دے) فعل شرط پورے چہ هغه دخول د دَار دے  
عَلَيْ :- او کلا فعل شرط معلق کہے شی د فعل جزاء پورے۔ مثال :- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ  
فَاتَّبِعُونِي (تہ ورتہ او رابہ اے پیغمبر! کہ چرے تاسو اللہ تعالیٰ سرہ محبت کو لو غوارے۔ نو بیا  
زمانا جہداری او کری) لوس اللہ تعالیٰ (خپل حُان سرہ محبت) معلق کہے دے پہ فعل جزاء  
(اتَّبِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) پورے۔

فَأَمَّا ك :- بعضی ہتھی مثالوں کیے د شرط د مثال پہ شان د مستفتی دے۔ یعنی پہ شرط کیے د مسئلے  
ذکر وی او د جزاء مثال د مفتی پہ شان دے۔ یعنی پہ جزاء کیے د هغه مسئلے د حل کو لو ذکر وی۔

مثال :- اِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الْوَتِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

اوس دلتہ کیے مشر (اِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الْوَتِيَامِ) کیے د مسئلے او عادتے ذکر دے  
چہ مثلاً یو طالب علم بیمار شی او د ولارے نہ عاجز وی نو هغه بہ شہ کوی ؟ - نو جزاء «صَلَّى قَاعِدًا

یُرْكَعُ وَيُجِدُّ، كَيْفَ مَسْلُةٌ دَحْلٌ ذَكَرَ دَعَىٰ جِهَةً بِهٖ كَيْفِيٌّ اَوْ بِهٖ نَاسِئَةٌ بِهٖ مَوْجُوحٌ كَوِيٌّ - كَوِيًّا جِهَةٌ دَ  
شَرْطٌ مَثَلٌ دَمَسْتَقِيٌّ بِهٖ شَانٌ دَعَىٰ اَوْ دَجَزَاءٌ مَثَلٌ دَمَفْتِيٌّ بِهٖ شَانٌ دَعَىٰ .

## دَانُ مَشْهُورٌ اَقْسَامُ

اِنْ بِهٖ پَنْجَةٌ قِسْمَةٌ دَعَىٰ ۱ ط - اِنْ شَرْطِيَّةٌ - مَثَلٌ اِنْ تَنْصَرُوْا لِلّٰهِ يَنْصُرْكُمْ -

خبردار ہے :- کلمہ اِنْ شَرْطِيَّةٌ دلائلِ نَافِيَةٍ سِرِّهِ مَتَّصِلٌ رَاحِيٌّ اَوْ بِهٖ شَكْلٌ د اِلَّا اسْتِثْنَائِيَّةٌ سِرِّهِ  
لِيَكْلَمَ شَوْءٌ وِيٍّ فَوْدًا بِهٖ اِلَّا اسْتِثْنَائِيَّةٌ نَهْ كَسْرٌ بَلْ كَ دَا اِنْ شَرْطِيَّةٌ دَعَىٰ - اَوْ تَوْنٌ بِهٖ لَامٌ كَيْفِيٌّ مَدْغَمٌ  
شَوْءٌ دَعَىٰ . ۱، اِلَّا تَنْصَرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ (پ) ، ۲ - اِلَّا تَنْصَرُوْا يُعَذِّبْكُمْ ط (پ) ،  
۳ - وَالْاَنْفَعُ لِيَّ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخَيْرِيْنَ ط (پ) ، ۴ - وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدُكَ هُنَّ اَصْبَابٌ  
رِپَا - اَوْ كَلِمَةٌ دَا اِنْ شَرْطِيَّةٌ نَهْ پَسِ مَآ زَائِدَةٌ وِيٍّ اَوْ تَوْنٌ بِهٖ پَسِ مِيْكَ مَدْغَمٌ كَيْبَرِيٌّ .  
مَثَلٌ :- وَاِنْ مَاتَرْتَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَمَوْلِيٌّ ط (الایس) .

(۲) :- دَا اِنْ نَافِيَةٌ عِلْمَةٌ دَادَةٌ جِهَةً نَهْ پَسِ اَكْثَرُ اِلَّا اسْتِثْنَائِيَّةٌ وِيٍّ - اَوْ دَا كَلِمَةٌ بِهٖ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ  
مَثَلٌ :- اِنْ الْكَافِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ - اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ - اَوْ كَلِمَةٌ بِهٖ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ  
مَثَلٌ :- اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى - اِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهَا اِلَّا اِنْتَا ، (پ) ،  
اَوْ كَلِمَةٌ دَا اِنْ نَافِيَةٌ نَهْ پَسِ اِلَّا اسْتِثْنَائِيَّةٌ نَهْ وِيٍّ - مَثَلٌ :- اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا  
قَلْبِيْ اِدْرِيْ اَقْرَبِيْ اَمْ بَعِيْدِيْ مَا تَعْدُوْنَ ط (پ) .

(۳) :- اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ يَعْنِيْ مُسْتَدَدٌ (اِنْ) ، سَاكِنٌ (اِنْ) ، كَهْمَةٌ شَوْءٌ وِيٍّ - دَا كَلِمَةٌ بِهٖ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ  
دَاخِلِيَّةٌ خَوَافٌ كَهْمَةٌ اَوْ كَلِمَةٌ يَأْتِيْ اَوْ نَهْ كَرِيٌّ . مَثَلٌ دَعَمٌ كَوْلُوْا :- وَاِنْ كَلَّمَا لِيُوْقِيْتَهُمْ (فِي  
قِرَاةٍ وَّاحِدَةٍ) - مَثَلٌ دَعَمٌ نَهْ كَوْلُوْا :- وَاِنْ كَلَّمَا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحَضَّرُوْنَ ط اَوْ كَلِمَةٌ بِهٖ  
جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ . مَثَلٌ :- وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَا سَقِيْنٌ - وَاِنْ كَانَتْ لَكِبِيْرَةٌ اِلَّا عَلٰى  
الْخَشِيْعِيْنَ - وَاِنْ كَادُوْا لِيَقْتُلُوْكَ .

قائد کا :- دَا اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ عِلْمَةٌ دَادَةٌ جِهَةً نَهْ پَسِ بِهٖ لَامٌ اِبْتَدَائِيَّةٌ تَاكِيْدِيَّةٌ وَاِقَاعٌ  
كَيْبَرِيٌّ اَوْ دَا رِيَاةٌ بِهٖ اَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ ، اَفْعَالٌ مَقَارِبَةٌ اَوْ اَفْعَالٌ قُلُوْبٌ بَانِدَةٌ دَاخِلِيَّةٌ لَكِهٖ شَخْصٌ جِهَةً  
مَثَلُوْنَ نَهْ وَاِضَاحَةٌ دَهْ .

(۴) اِنْ زَائِدَةٌ :- دَا اَكْثَرُ دَمَا نَافِيَةٌ نَهْ پَسِ كَلِمَةٌ بِهٖ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ اَوْ كَلِمَةٌ بِهٖ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ بَانِدَةٌ  
مَثَلٌ :- دَا اِسْمِيَّةٌ جَمَلَةٌ :- مَا اِنْ زَيْدٌ قَارِيٌّ - دَعَمٌ جَمَلَةٌ مَثَلٌ :- مَا اِنْ اَتَيْتُ بِشَيْءٍ اَنْتَ تَكْرَهُهُ .

## دِانٌ وَصَلِيَةٌ تَعْرِيفٌ

داھفہ اِنّ دے چہ پہ ہفے کینے نقیض د شرط اولیٰ بالجزاء وی۔ یعنی کوم شرط چہ پہ کلام کینے ذکر وی۔ نوھفہ سرہ د جزاء ہم تعلق وی۔ اوھفہ دپارہ داھم جزا جو رپیدے شی۔ لیکن ددہ د نقیض سرہ د جزا تعلق زیات وی یعنی بطریق اولیٰ وی۔ داپہ سادہ او عامہ ژبہ کینے داسے او گسترہ چہ استاذ محترم داختر د چتھیانود پارہ طالبان کینے اعلان اوکرو۔ نو یو مستغرق فی التعلیم طالب علم باپاسیدو او وئے وئیل؛ اَقْرَأُ الدَّرْسَ وَ لَوْ فِي الْعِيدِ۔ زہ خوبہ سبق وایم اگر کہہ د اختر پہ ورح وئے نہ وی۔ اوس اَقْرَأُ الدَّرْسَ یعنی زہ بہ سبق وایم۔ جزاء دہ او د اختر ورح شرط دہ۔ او ددے نقیض داختر نہ علاوہ باقی ورحے دی۔ اوس د جزا (سبق لوستلو) تعلق داختر ورحے سرہ ہم دے۔ چہ زہ بہ سبق وایم کہ چرے داختر ورح وی لیکن ددہ د نقیض داختر نہ علاوہ باقی ورحو سرہ تعلق بطریق اولیٰ دے۔ یعنی پہ باقی ورحو کینے خوبہ پہ طریق اولیٰ سرہ وایم۔

۲) بَلِّغُوا عَنِّي وَاِنْ كُنْتُمْ فِي حَرْبٍ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَلَوْ اَنْتُمْ اِيْتُونَنِي مِنْ يَدَيْكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ وَلَوْ اَنْتُمْ اِيْتُونَنِي مِنْ يَدَيْكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ وَلَوْ اَنْتُمْ اِيْتُونَنِي مِنْ يَدَيْكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ

لوایتہ دا شرط دے۔ اوس ددے شرط نقیض مثلاً دوہ، درے، ٹھلوڑ ایتونہ دی، نو اوس د جزاء تعلق د مذکورہ شرط سرہ ہم دے۔ یعنی تاسو زما پیغام اورسوی اگر کہہ یوایت وی۔ اوس بَلِّغُوا جزاء دہ۔ لیکن ددے شرط د نقیض (یعنی یوایت نہ زیات ایتونن) سرہ زیات تعلق دے او بطریق اولیٰ دے۔ یعنی کہ چرے دوہ درے ایتونہ وی نو بیا زما پیغام پہ طریق اولیٰ سرہ اورسوی۔

فَائِلَةٌ عَمَلٌ :- اِنّ وصلیہ نقیض د شرط دپارہ پہ وقوع د حکم کینے د تاکید او مبالغہ فائدہ وری

لک: اَكْرِمُ اَخَاكَ وَاِنْ كَانَ جَاهِلًا (تہ دخپل رور عزت اوکرو اگر چہ ہفہ جاہل وی) او کہ چرے ہفہ رور جاہل نہ وی بلکہ عالم وی نو بیا خو پہ طریقہ لولی سرہ لے اکرام اوکرو۔ لہذا ہفہ مثال بہ صحیح نہ وی چہ ہفے کینے د جزاء والا حکم د نقیض د شرط دپارہ مبالغہ سرہ او پہ طریق اولیٰ سرہ ثابت نہ وی۔ لک: اَكْرِمُ لَخَاكَ وَاِنْ كَانَ عَالِمًا۔ اوس دامثال صحیح نہ دے۔ حکم چہ پہ دے کینے د جزاء حکم (اکرام الاخ) نقیض شرط (اِنْ كَانَ جَاهِلًا) د پارہ پہ طریق اولیٰ ثابت نہ دے۔ یعنی داسے نہ شی وئیلے کیدے چہ تہ دخپل رور اکرام اوکرو اگر کہہ ہفہ عالم وی۔ او کہ چرے عالم نہ وی بلکہ جاہل وی۔ نو بیا خرے پہ طریق اولیٰ سرہ اکرام اوکرو۔

فَائِلَةٌ عَمَلٌ :- دِانٌ وَصَلِيَةٌ عِلْمٌ دَادَةٌ چہ دھفہ د لاندے لفظ د وصلیہ کیکلے شوے وی اوھفے نہ پس دھفہ جزاء ذکر نہ وی بلکہ دما قبل جملہ دھفہ پہ جزا محذوف یا ندے دلالت کوی۔ پہ اسانہ سرہ لے داسے او گسترہ چہ کویا ماقبل جملہ ددے دپارہ جزاء دہ۔

**فائلہ مک** :- کرم جائے کھنچہ دین وصلیہ نہ پس لکن راقلو۔ تو دین وصلیہ شرطیہ گرجی  
 اور دے جزاء د لکن نہ مخکنے محدود وی الیہ دہ لایضرتنا او دا لکن پہ معنی د لائن  
 کبہ گرجی لو دا دلیل وی جزائے محدود لایضرتنا د بارہ۔ مثالاً۔ فصیح آراءہ لان الترتیب  
 واین کان فرضاً بیئہ (ای الوتر) و بین العشاء لکن آدمی الوتر بزعم انہ صلی العشاء بالوضوء  
 (شرح رقاہ ص ۱۸۲ باب قصاص الفواتح)۔

مثال مک ۱۔ فخرج بہ مثل تأدیبا فی قولک ضربتہ تأدیبا فانہ واین کان مقافعلہ قاعل مفعل  
 مذکور لکن تفسیر معاً یستعمل علیہ معنی الفعل۔ (شرح جامی بحث نصر ل مطلق ص ۹)۔  
 دریم نمر فائدہ: د اردو ترجمہ کرلو پہ وخت دین وصلیہ پہ معنی کبہ اگرچہ لفظ راجی۔

**فائلہ مک** :- د فعل شرط نہ پس چہ کل د فعل مضارع گنرے صیغہ راجی۔ پہ یوں صیغہ باندے  
 فار داخلہ وی پہ دویمہ صیغہ باندے کو او پہ دویمہ صیغہ باندے سووف داخل وی۔ نو جزاء  
 ابتدا پہ د فعل مضارع د صیغہ نہ کین ی پہ کرہ۔ چہ لفظ سووف داخل دے۔ لکہ: وَمَنْ يُقَاتِلْ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔

**فائلہ مک** :- د کو پہ جزاء باندے علم طور باندے لام ابتدائیہ تکید یہ داخلین ی۔ لکہ: لَوْ  
 نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلَمْتُمْ فَتَنْكَهُونَ۔ او کل بغیر د لام ابتدائیہ تکید یہ نہ راجی۔ لکہ: لَوْ نَشَاءُ  
 لَجَعَلْنَاهُ أُجَابًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ او کل د کو شرطیہ پہ جزاء باندے لفظ د ما داخلین ی۔ لکہ: قُلُوْا  
 مَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ۔ (زیات تفصیل د پہر معنی اللہ ص ۲۸۴) او تہذیب النحو فارسی ص ۴ او گورما

### د شرطیہ جملے د اجراء طریقہ

استاذ :- زما گرانو او محترمو طالبانو! قرآن کریم، احادیث نبویہ، او فروع د عربیہ کتابونو نہ د شرطیہ  
 جملے مثالونہ را اویاسی؟  
 شاکر د۔

۱۔ د قرآن کریم نہ:- إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْوَ فَاجْنَحْ لَهَا۔ وَإِنْ يَرِيدُوا  
خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ۔ وَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ  
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

۲۔ د احادیث نبویہ نہ:- مَنْ تَوَاصَعَ لِلَّهِ رَقَعَهُ اللَّهُ۔ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ مَنْ بَنَى لِلَّهِ  
مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔

۳۔ د فروع عربیہ کتابونو نہ:- وَمَنْ رَأَى حِلَالَ رَمَضَانَ وَحَدَّهُ صَامَ۔ إِذَا أَدَانَ الْمُؤَذِّنُ فَوَلِّئُوا  
الْجُمُعَةَ الْأَدَانَ لِأَنَّ تَرْكَ النَّاسِ السُّبْحَ وَالشَّامَ۔ وَمَنْ رَأَى حِلَالَ الْفِطْرِ وَحَدَّهُ لَمْ يَنْطِرْهُ  
رَبُّهُ۔

استاذ :- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَخُذْ - داکوہ جملہ دہ !

شاگرد :- واجملہ شرطیہ دہ ۔

استاذ :- تاتہ ٹنکہ پتہ اولکیدہ چہ واجملہ شرطیہ دہ !

شاگرد :- ددے پہ شروع کئے داسملہ شرطیہ نہ اِذَا شرطیہ داخلے دے ۔

استاذ :- شرطیہ جملہ دخر جملو لہ جوہرین ی ؟

شاگرد :- شرطیہ جملہ د نور جملو نہ جوہرین ی ۔ اولہ جملے تہ شرطا وائی اوردویسے جملے تہ

جزاء وائی ۔

استاذ :- دلته کئے کومہ جملہ شرط اوکومہ جزاء دہ ؟

شاگرد :- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَخُذْ واجملہ شرط دے ، او فَاَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۔ واجملہ

جزاء دہ ۔

استاذ :- تاتہ ٹنکہ معلومہ شوہ چہ : فَاسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ واجملہ جزاء دہ ؟

شاگرد :- واقاعدہ دہ چہ کرد شرط جزاء صیغہ د امر وی فوہہ عکے ہاندے د خول د قلم ضروری

وی ۔ فردلته ہم فَاَسْتَعِذُّ صیغہ د امر دہ لہذا داد ماقبل جملے د پارہ جزاء جوہرین ی ۔

استاذ :- ددے جملے مختصر ترکیب لوکرہ ؟

شاگرد :- فَا - قرانیہ ، اِذَا - اسم شرط ، قَرَأْتَ - فعل - ت ، پکچے ضمیر د فاعل شو ۔ الْقُرْآنَ - فاعل

مفعول بہ شو ۔ فعل سر د فاعلہ اوسر د مفعول بہ نہ شرط شو ۔ فَا - جزائیہ ، اِسْتَعِذُّ

فعل ، اَنْتَ پکچے ضمیر د ہفہ فاعل شو ۔ بِآ - جار ۔ اللہ - مجرور ، جار سر د مجرور نہ

متعلق شو پہ استعذ فعل پرے ۔ مَنْ ، جار ، الشَّيْطَانِ موصوف ، الرَّجِيمِ - صفت - موصوف

سر د صفت نہ مجرور د جار شو ۔ جار سر د مجرور نہ متعلق شو پہ استعذ پرے ۔

فعل سر د فاعلہ اوسر د متعلقینونہ جملہ فعلیہ انشائیہ جزاء شوہ ۔ شرط سر د چلے جزاء نہ جملہ

شرطیہ جزائیہ مشرہ ۔

استاذ :- ددے جملے خہ معنی دہ ؟

شاگرد :- کلہ چہ تہ د قرآن لوستو ارادہ لوکرے فریادہ اوغولہ پہ اللہ پاک سرہ د شیطان مردود نہ

استاذ :- اِنْ كُنْتُمْ رَاوَاللهَ يَنْصُرْكُمْ - داکوہ جملہ دہ ؟

شاگرد :- واجملہ شرطیہ دہ ۔

استاذ :- تاتہ ٹنکہ معلومہ شوہ چہ واجملہ شرطیہ دہ ؟

شاگرد :- د اِحک چہ ددے پہ شروع کئے اِنْ شرط دے

استاذ :- ددے جزاء کو مہیوہ دہ ؟

شاگرد :- یَنْصُرُكُمْ ددے جزاء دہ .

استاذ :- تاتہ خنکہ معلومہ شوہ چہ ددے جزاء یَنْصُرُكُمْ دہ ؟

شاگرد :- دا قاعدہ دہ چہ کہ د شرط جزاء د فعل مضارع صیغہ وی۔ نو ددے پہ شروع

کہنے د قاء راہل جائز دی۔ یعنی راہلے لے ہم شے۔ او پر بنود لے شے ہم شے نو لے

کہنے قاء نہ دہ داخل شوے۔

## دِ اِنْ اَوْ لَوْ وَصَلِيَّةٌ اَجْرَاء

استاذ :- رما محترم و گرانو طلبانوا! دِ اِنْ اَوْ لَوْ وَصَلِيَّةٌ مَثَلَوْنِ رَا اَوْ بَا سَمِي ؟

شاگرد :- ۱- لَنْ تُغْنِيَنَّكُمْ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ سَيِّئًا وَّ لَوْ كَثُرَتْ - ۲- بَلِّغُوا عَنِّي وَّلَوْ اَيُّتًا .

۳- فَاَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ وَاِنْ دَخَلْتُ عَلَيَّ الْمَاضِي .

استاذ :- د مثال نمبر ۳ مختصر ترکیب او کربہ ؟

شاگرد :- فاء و تفصیلیہ اَنْ یارادہ لفظ مبتداء شوہ۔ لِلِاسْتِقْبَالِ ظرف مستقر متعلق دے

پہ ثَبَّتَتْ فعل یا ثابتہ اسم فاعل مقدرہ پورے۔ ثَبَّتَتْ فعل ہی ضمیر فاعل شو

چہ راجع دے مبتداء تہ۔ فعل سرہ د فاعلہ اوسرہ د متعلقہ خبر د مبتداء شوہ۔

ثابتہ صیغہ د اسم فاعل دہ چہ امداد لے نیولے دے پہ خیل مبتداء پورے او عمل کوی پہ شان د خیل

فعل معروف ( ہی ضمیر فاعل چہ راجع دے مبتداء تہ۔ ثابتہ صیغہ د اسم فاعل سرہ د خیل فاعل

نہ اوسرہ د خیل متعلق نہ شبہ جملہ خبر د مبتداء شوہ۔ مبتداء سرہ د خیل خبر نہ جملہ اسمیہ

خبریہ شوہ .

آو د مبالغے (پہ قول د ملا علی قاری) اِنْ وَصَلِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ دَخَلْتُ فَعَلٌ هِيَ زَمِيْرَةٌ فَاعِلَةٌ

چہ راجع دے اِنْ تہ عَلَيَّ جَارٌ الْمَاضِي مَجْرُورٌ تَقْدِيْرًا - جَاكِرُ سِرِّ د مَجْرُورٌ نَهْ مَتَعَلِقٌ بِهْ دَخَلْتُ بِهْ

دَخَلْتُ فَعَلٌ سِرِّ د فَاعِلٌ نَهْ اَوْ سِرِّ د مَتَعَلِقٌ نَهْ جَمَلُهُ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ - اَوْ جَزَاءٌ لِهْ دَا قَبْلُ جَمَلٌ د

قَرِيْبُهُ بِهْ وَجِهٌ سِرِّ مَحْذُوفٌ دَهْ اَوْ هَفْ دَا دَهْ فَاَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ - فَاَوْسٌ بِهْ اَصْلُ عِبَارَتِ دَا سَانَوِي

وَ اِنْ دَخَلْتُ عَلَيَّ الْمَاضِي فَاَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ - نَوْ شَرْطِيَّةٌ سِرِّ دَخِيْلٌ جَزَا مَحْذُوفٌ نَهْ جَمَلُهُ شَرْطِيَّةٌ جَزَائِيَّةٌ

شُوِهْ - عِنْدَ الزَّمْحَشَرِيِّ - وَاَوْ حَالِيَّةٌ دَهْ اَوْ مَا بَعْدَ شَرْطِيَّةٌ اِنْ دَخَلْتُ عَلَيَّ الْمَاضِي سِرِّ دَخِيْلٌ جَزَا

مَحْذُوفٌ نَهْ حَالٌ شُوِهْ هَفْ مَضْمِيْرٌ نَهْ كَوْمٌ چہ د لِلِاسْتِقْبَالِ ظَرْفٌ كَيْفٌ مُسْتَمَرٌّ دَهْ (حُكْمٌ چہ ظَرْفٌ

مُسْتَمَرٌّ دَهْ فَعَلٌ يَأْتِي بِهْ شَانٌ عَامِلٌ هَفْ) لِهَذَا فَعَلٌ يَأْتِي بِهْ فَعَلٌ چہ شَانٌ دَهْ كَيْفٌ هَفْ

ضمیر مسترکبہ شیء لکھ: زَيْدٌ فِي الدَّارِ قَائِمًا .

یہ یوں ترکیب کیے قَائِمًا تہ نصب « فی الدار » وکرے دے۔ فی الدار کیے ضمیر دھو ہفہ ذوالحال شو او قَائِمًا حال شو۔ یا داچہ دا حال دے دھفہ ضمیر ذہی نہ کوم چہ دظرف مستقر متعلق کیے مستر دے۔ ہئی ضمیر ذوالحال سرہ دخپل حال نہ فاعل دظرف (للاستقبال) شو۔ یا د تَبَّتْ فعل یا د ثابتاً اسم فاعل دپارہ۔ یا طرف سرہ دخپل فاعل نہ شبہ جملہ خبر د مبتدا شو۔ دغرضان تَبَّتْ فعل یا ثابتاً اسم سرہ دخپل متعلق نہ خبر د مبتدا شو۔ مبتدا سرہ د خبر نہ جملہ اسمیہ خبریہ شوہ۔

عند الجزی:۔ او عاطفہ دے، اِنْ دَخَلْتُ عَلَى الْمَاضِيْ جملہ شرطیہ معطوفہ دہ۔ او ماقبل نقیض د شرط مقدر (اِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَى الْمَاضِيْ) معطوف علیہ شو۔ نواصل عبارت بہ دے وی۔ اِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَى الْمَاضِيْ فَاَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ (معطوف علیہ)۔ وَاِنْ دَخَلْتُ عَلَى الْمَاضِيْ فَاَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ (معطوف) معطوف علیہ سرہ د معطوف نہ جملہ معطوفہ شوہ۔

عند الرضی:۔ وَاَوْ اعْتَرَضِيْ دے۔ او فَاَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ جزاء مقدمہ دہ۔ او وَاِنْ دَخَلْتُ عَلَى الْمَاضِيْ بشرط مؤخر دے۔ (حککہ قاعدہ دادہ چہ د شرط او جزاء پہ مینخ کیے کہ چرے وَاَوْ رَاشِيْ نرہفہ وَاَوْ بہ وَاَوْ اعْتَرَضِيْ وی۔ او شرط او جزاء پہ جدا جدا جملے معترضے وی۔

استاذ:۔ يَلْقَوْنَ عَنِّيْ وَلَوْ اِيَّاهُ - دے ترکیب او کہہ؟

شاگرد:۔ يَلْقَوْنَ - فعل - وَاَوْ ضمیر بارز فاعل، عَنْ جِلْد، تَنْ - وقایہ، یا - ضمیر متکلم مجرور محذوف جار سرہ د مجرور نہ متعلق شو پہ بلقوا پوسے۔ فعل سرہ د فاعل نہ او سرہ د متعلق نہ جملہ فعلیہ انشائیہ شوہ۔ وَاَوْ د مبالغہ دپارہ۔ لَوْ شرطیہ وصلیہ - اِيَّاهُ خبر د کانت محل محذوف ہئی ضمیر اسم د ہفہ شو۔ چہ راجع دے تبلیغ تہ (او دا مرجع معنوی دہ حککہ مشتق منہ تبلیغ پہ ضمن د مشتق (بلقوا) کیے موجود دے۔ لہذا کانت فعل سرہ دخپل اسم او خبر نہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط شو او جزاء تہ فَيَلْقَوْنَ عَنِّيْ محذوف دہ (او دلالت کھونیکے پہ جزاء محذوف ہاندے جملہ متقدمہ (يَلْقَوْنَ عَنِّيْ) دہ چہ ہفہ عوض د جزاء دہ یا مثل دغوض د جزاء د شرط سرہ دخپلے جزاء نہ جملہ شرطیہ جزائیہ شوہ۔

قائلہ کہل:۔ د اِنْ يَا لَوْ وصلیہ نہ ماقبل وَاَوْ بارہ کیے کنز اقوال دی (۱) عند الزمخشری۔ او حالیہ دے، (۲) عند الجزی، وَاَوْ عاطفہ دے، (۳) عند الرضی، وَاَوْ اعترضیہ دے، (۴) بقول ملا علی قاری

وَاَوْ د مبالغہ د پارہ دے۔

قائلہ کہل:۔ یہ ذکر شوی وَاَوْ کیے پہ عامو تراکیب کیے د اسلاف د پارہ د ملا علی قاری قول اختیار کرینی

## د قسمیہ جملے د حل کولو طریقہ

د قسم لفظی معنی دہ پخولہ د یوخیز۔ کوم حائے چہ قسم وی ہلتہ کجے د حلوہ خیزو  
پہرندل ضروری دی: (۱) مُقسِم (قسم کورنکے)۔ (۲) مُقسَمِیہ (دکوم دات پہ نوم چہ قسم اوکر کجی)  
(۳) حرف قسم (پہ کوم حرف چہ قسم اوکرے شی)۔ (۴) جواب قسم (کوم مقصد د پارہ چہ قسم اوکرے شی)  
مثال ۱۔ تَا اللّٰہِ لَا کُفَیْدَتَ اَصْنَآمَکُمْ بَعْدَ اَنْ تُوکُوْا مُدْبِرِیْنَ ط۔ پہ دے مثال کجے مُقسِم  
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام دے او مقسم بہ د اللہ پاک ذات دے، او حرف قسم تاء دہ، او  
جواب قسم لَکَیْدَتَ اَصْنَآمَکُمْ دے۔

**حروف قسم:** - تاء - رآؤ وغیرہ دی۔

**ضابطہ:** - د ہر قسم د پارہ جواب قسم ضروری دے۔ بیا ورائندے جواب قسم بہ د دوو  
حالات تونہ خالی نہ وی۔ یا بہ جملہ اسمیہ وی، یا بہ جملہ فعلیہ وی۔ کہ چرے جملہ اسمیہ وی  
نو بیا بہ د دوو حالات تونہ خالی نہ وی یا بہ مثبتہ وی یا بہ منفی وی۔ کہ چرے مثبتہ وی نو دے پہ  
ابتداء کجے بہ اِنّ وی او یا بہ لَامِ اِبْتِدَائِیَہ تَاکِیْدِیَہ وی یا بہ دواہ وی۔ لک: یُسّی۔ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ  
اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ۔ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفِیْ حَسِرًا۔ وَاللّٰہِ اِنَّ زَیْدًا قَائِمٌ۔ وَاللّٰہِ لَیْزِیْدٌ قَائِمٌ  
اوکر چرے منفیہ وی۔ نو دھے پہ ابتداء کجے بہ مَا۔ یا۔ لَا یا۔ اِنَّ تافیہ وی؛ لک: وَاللّٰہِ مَا زَیْدٌ قَائِمًا  
، وَاللّٰہِ زَیْدٌ فِی الدَّارِ وَلَا عَمْرُو۔ وَاللّٰہِ اِنَّ زَیْدًا قَائِمٌ۔ اوکر چرے جملہ فعلیہ وی۔ نو بیا بہ ہم  
د دوو حالات تونہ خالی نہ وی۔ یا بہ مثبتہ وی یا بہ منفیہ وی۔ کہ چرے مثبتہ وی نو دھے پہ شروع  
کجے بہ لَامِ تَاکِیْدِ او قد دواہ وی او یا بہ یواھے لَامِ تَاکِیْدِ وی۔ لک: وَاللّٰہِ لَقَدْ قَامَ زَیْدٌ۔ وَاللّٰہِ  
لَا فَعَلْنَ کَذَا۔ اوکر چرے منفیہ وی نو بیا بہ د دوو حالات تونہ خالی نہ وی۔ یا بہ ماضی منفی  
وی یا بہ مضارع منفی وی۔ کہ چرے فعل ماضی منفی وی۔ نو دھے پہ شروع کجے بہ لفظ دَخَا  
وی۔ لک: وَاللّٰہِ مَا قَامَ زَیْدٌ۔ اوکر چرے مضارع منفی وی۔ نو دھے پہ شروع کجے بہ مَا یا لَا یا  
لفظ دَلْنَّ وی لَکَلَّ وَاللّٰہِ مَا اَفْعَلْنَ کَذَا۔ وَاللّٰہِ لَا اَفْعَلْنَ کَذَا۔ وَاللّٰہِ لَنْ اَفْعَلَ کَذَا۔ اصل پہ  
حرف قسم کجے بآؤ دہ۔ پہ دے وجہ سرہ د دے استعمال عام دے۔

دواو قسم د استعمال د پارہ درے شرطونہ دی:

(۱)۔ فعل قسم بہ معذوف وی، لک:۔ فَلَا یَقَالُ اَمْسَمُ وَاللّٰہِ۔ بخلاف الباء فَتَسْتَعْمَلُ مَعَ  
اَفْعَلِ الْمَذْکُوْر۔ فِیَقَالُ اَقْسَمْتُ بِاللّٰہِ۔

(۲)۔ پہ مقام د سوال کجے بہ مستعمل نہ وی۔ فَلَا یَقَالُ وَاللّٰہِ اَخْبِرْنِیْ۔ بخلاف الباء۔ فِیَقَالُ بِاللّٰہِ

اَخْبِرِيكِ -

(۳) - دایہ پہ اسم ظاہر داخل وی۔ لک، فَلَا يُقَالُ وَكَ - بِخِلَافِ لِبَاءٍ فَيُقَالُ بِكَ - اودتاء قسم  
د استعمال د پارہ ہم دادرے شرطونہ دی۔ لیکن بز غوندے فرق پکینے شتہ دے۔ ہفہ  
دادے۔ چہ ددے مدخول بہ ہمیشہ دپاس اسم داللہ وی۔ لک، تَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَنَا اَصْنَامُكُمْ  
(تفصیل د پارہ شرح مائتہ عامل ص ۳ اوکوری)

### د قسمیہ جملے اجراء

استاذ :- د جملے قسمیے مثالونہ راوباسی ؟  
شاگرد :- وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذْ سَبَّحَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا  
قَلٰى - تَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَنَا اَصْنَامُكُمْ -

استاذ :- پہ دویم ایت کینے دا کومہ جملہ دہ ؟ شاگرد :- دا جملہ قسمیہ دہ .  
استاذ :- تاتہ ختنکہ معلومہ شوہ چہ دا جملہ قسمیہ دہ ؟  
شاگرد :- ددے پہ شروع کینے وار د قسم دے .

استاذ :- کوم خائے چہ قسم وی ہلقتہ کینے دشومہ خیر و نوب پیرندل ضروری دی ؟  
شاگرد :- ہلقتہ کینے دخلور خیر و نوب پیرندگلی ضروری دہ : مقسم ، مقسم بہ ، حرف قسم  
جواب قسم .

استاذ :- پہ دے مثال کینے دغہ خلور خیر و نہ ثابت کرہ ؟  
شاگرد :- مقسم اللہ تعالیٰ دے۔ او الضُّحٰى (د غم و سخت) او (وَاللَّيْلِ اِذْ اَسْبٰجِي) (شپہ چرکلہ  
تیارہ شی) معطوف معطوف علیہ مقسم بہ دے۔ حرف قسم واؤ دے ، او جواب قسم مَا وَدَّعَكَ  
رَبُّكَ وَمَا قَلٰى دے .

استاذ :- تاتہ ختنکہ معلومہ شوہ چہ دا جواب قسم دے ؟  
شاگرد :- د جواب قسم د ضابطے نہ معلومہ شوہ۔ حکہ چہ د جواب قسم پہ ضابطہ کینے دا خبرہ  
لیکلے شوہ دہ۔ چہ کہ چرے جواب قسم د فعل ماضی منفی صیغہ وی نود ہفے پہ  
ابتداء کینے لفظ ما وی .

استاذ :- دا خلور خیر و نہ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ پہ مثال کینے ثابت کرہ ؟  
شاگرد :- مقسم اللہ تعالیٰ دے۔ مقسم بہ وَالْعَصْرِ (زمانہ) دے۔ حرف قسم واؤ دے۔ جواب  
قسم اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ دے .  
استاذ :- تاتہ جواب قسم ختنکہ معلومہ شوہ ؟

شاگرد :- د جواب قسم د ضابطہ نہ، حُک ضابطہ دادہ۔ چہ کلہ قسم جملہ اسمیہ مثبتہ وی نو دھے پہ شروع کئے بہ اِنَّ وی۔ یا بہ لام ابتدائیہ تَأْکِیدِیہ وی یا بہ دواہ وی۔ نو دلته کئے ہم دواہ دی۔

استاذ :- د دے جملے مختصر ترکیبیا اوکری ؟

شاگرد :- وَأَوْ قَسْمِیہ جار، الْعَصْر۔ مجرور بالکسرہ لفظاً، جار سرہ د مجرور نہ متعلق شو پہ اُقْسِمُ فعل محذوف پورے۔ اُقْسِمُ فعل ضمیر پکینے مستتر دے چہ تعبیر ترینہ کیدے شی پہ اَنَا سرہ۔ فقہ ئے فاعل شو۔ فعل سرہ د فاعلہ جملہ فعلیہ قسم اِنَّ حرف د حروف مشبہ بالفعل نہ ناصب الاسم ورافع الخبر۔ اَلْاِنْسَانُ اسم د اِنَّ شو۔ اَوْ لِقَوِّ خَسِرٍ۔ دا ظرف مُستقر متعلق پہ ثَبَّتَ فعل یا ثَابِتٌ اِسْمُ فاعل پورے شو۔ دا خیر د اِنَّ شو۔ نو اِنَّ سرہ د اسم اوخیر خیل نہ جواب قسم شو۔ قسم سرہ د جواب قسم نہ جملہ قَسْمِیہ اِنشائیہ شرہ۔ باقی د قسم جملے ہم پہ دے باندے قیاس کری۔

## د ندائیے جملے د حل کو لو طریقہ

د نداء لغوی معنی ده « آواز کول »

کوم خائے کئے چہ نداء وی۔ جلتہ کئے د خلوع خیزونو پیریندل ضروری دی۔ نداء۔ مَنَادِيٌّ  
۱۔ مَنَادِيٌّ۔ ۲۔ حرف نداء، ۳۔ جواب نداء۔ مَنَادِيٌّ۔ آواز کونکی تہ وائی۔ مَنَادِيٌّ  
چاتہ چہ آواز اوکریے شی۔ حرف نداء :- پہ کوم حرف سرہ چہ آواز اوکریے شی۔ جواب نداء۔ کوم  
مقصد د پارہ چہ آواز اوکریے شی۔

مثال :- يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّتٍ ط

اوس پہ دے مثال کئے: مَنَادِيٌّ اَللّٰهُ تَعَالٰى دے۔ مَنَادِيٌّ يَحْيٰى عَلِيٌّ السَّلَامُ د  
حرف نداء يٰء دے۔ او جواب نداء۔ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّتٍ دے۔ حروف نداء بِقُوَّتٍ دے۔ يٰء  
اِيَّا۔ هَيَّا۔ اے۔ همزہ مفتوحہ۔ پہ دے حروف نداء کئے يٰء کثیر الاستعمال دے۔

## د منادی اقسام او احکام

مَنَادِيٌّ پہ درپور خایونر کئے منصب وی۔

- ۱۔ چہ کلام منادی مضاف وی۔ لک: يَا عَبْدَ اللّٰهِ۔ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
- ۲۔ کلہ چہ مَنَادِيٌّ مشابہ بالمضاف وی لک: يَا طَالِعًا جَبَلًا

منادى مشابه بالمضاف هغه ته وائیٰ چه منادى مضاف خونہ وی لیکن د مضاف مشابہ وی یعنی څنگه چه د مضاف معنی بغیر د مضاف الیه نه نه مکمل کیږی۔ دغه شان د منادى معنی بغیر د یلے کلے دیو ځائے کولو نه نه مکمل کیږی۔ لکه څنگه چه د طالعاً معنی ده خترنکے نو دا معنی بغیر د ځیلا نه نه مکمل کیږی۔

قل :- کله چه منادى نکره غیر معینه وی۔ لکه یو پرند سپرے بل چاته او وائیٰ چه یار جلا خذ بیدى۔ لیکن که چرے بیاسرے وائیٰ۔ نو هغه به داستان وائیٰ: یارجل خذ بیدى اوس دا منادى مفرده معرفه مبنی بر علامت رفع به وی۔

(۴)۔ کله چه منادى مفرده معرفه وی۔ نو هغه به مبنی بر علامت رفع وی لکه:- یا زید۔ یا فوج یا ابراهیم۔ یعنی دغه منادى حرف نداء د داخلیدونه وړاندے چه په کوم حالت (ضمه- الف- وائی) باندے معربا وه۔ نو د حرف نداء د داخلیدونه بعد به هم په هغه حالت باندے مبنی وی۔ سوال :- یا زیدان او یا زیدون کینه خو منادى مفرده نه ده۔ بلکه تشبیه او جمع ده۔ نو که ده مفرده و بیل څنگه صحیح کیږی؟

جواب :- مفرد د څلور څیرونو مقابله کینه راځی۔ (۱) مفرد د مرکب په مقابله کینه، (۲) مفرد د تشبیه او جمع په مقابله کینه، (۳) مفرد د مضاف او مشابیه بالمضاف په مقابله کینه، (۴) مفرد د جمله په مقابله کینه۔

دلته کینه په بحث د منادى کینه مفرد په مقابله د مضاف او مشابیه بالمضاف کینه ده، یعنی دلته کینه د مفرد کید و مطلب دا ده چه هغه به مضاف یا مشابیه بالمضاف نه وی، روستو بیا عام ده۔ خواه که هغه واحد، تشبیه او جمع وی۔ دا ټول په مفرد کینه داخل دی۔

فائله :- په کلام د عربی کینه او خصوصاً په قرآن کریم کینه د منادى اول او اخری قسم زیات استعمال شوه ده۔

فائله :- کله چه منادى معرفه باللام وی نو د دغه منادى او حرف نداء په مینځ کینه به مذکور د یا ایها او مؤنث د یا ایتمها الفاظ فاصله راوړی۔ خو په دے شرط چه دغه الف لام عوضی هم نه وی او لازم هم نه وی۔ که چرے وی نو بیا به فاصله نه راوړی۔ لکه: یا الله۔ اوس په دے کینه الف لام عوضی دی ځکه چه د الله د همرے نه بدل راغلی دی او لازم هم دی ځکه چه د لاه کله بغیر د الف لام نه په نشر کلام کینه نه ده موجوده شوه۔

مطابقی مثال :- یا ایها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك۔ یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك۔ یا ایها الناس اتقوا ربكم د

**فائل۱:**۔ کلہ حرف نداء حذف شی۔ او دھے پہ عوض کہنے پہ احر کہنے ميم مشدّدہ راوری لک  
**اللَّهُمَّ**۔ چہ پہ اصل کہنے یا اللہ وو۔

**فائل۲:**۔ کلہ حرف نداء حذف کولے شی لک **رَبَّنَا** پہ مقام دعاء کہنے چہ کوم حائے کہنے **رَبَّنَا** او  
**رَبِّ** لفظ استعمال شوے وی۔ نوہے نہ بہ ورنادے حرف نداء محذوف وی۔ پہ اصل کہنے یا **رَبَّنَا** او یا **رَبِّ**  
 وو۔ دلته کہنے منادی دا اضافت پہ وجہ سرہ منصوب دہ۔ **رَبَّنَا** منادی منصوب لفظادہ او **رَبِّ**۔  
 منادی منصوب تقدیر آدہ۔ او ددے اعراب پہ دربارہ حالتون کہنے تقدیری وی۔

مثال :- **رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ**۔ **رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا**۔

### دندائے جملے اجراء

استاذ:- محترم و طالبانز! دجملے ندائے مثالونہ ذکر کری؟  
**شاعر:-** **يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ**  
**يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا**۔

استاذ:- **يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا**۔ دا کوم جملہ دہ؟  
 شاگرد:- دا جملہ ندائے دہ۔

استاذ:- تاتہ خنک معلومہ شوے؟ **شاعر:-** ددے پہ شروع کہنے یا حرف نداء داخلہ دہ۔  
 استاذ:- کوم حائے کہنے چہ حرف نداء وی ہلتہ کہنے دشومہ خیزونو پیرند ضروری دی؟  
 شاگرد:- دخلور و خیزونو۔ منادی۔ منادی۔ حرف نداء۔ جواب نداء۔

استاذ:- پہ دہ مثال کہنے خلور و خیزونہ ثابت کرے؟  
**شاعر:-** پہ دے ایت کریمہ کہنے منادی اللہ تعالیٰ دے۔ او منادی المزمّل دے۔ حرف نداء یا  
 دہ۔ او جواب قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا الایۃ دے۔

استاذ:- دیا حرف نداء او د منادی "المزمّل" پہ میخ کہنے ے پہ ایتھا سر فاصلہ ولے  
 ذکر کہے دہ؟

شاگرد:- دا قاعدہ دہ چہ کلہ منادی معرفہ باللام وی او پہ ہفے باندے چہ کلہ حرف نداء  
 داخلہ کہے فی نو د منادی او حرف نداء پہ میخ کہنے بہ مذکر د پارہ ایتھا وغیرہ  
 او د مؤنث د پارہ بہ د ایتھا فاصلہ ذکر کولے شی۔

استاذ:- دا ولے؟ **شاگرد:-** دے د پارہ چہ اجتماع د آئی د تعریف لازمہ نہ شی  
 حکمہ الفلام او یا د حرف نداء دوارہ نکرہ نہ معرفہ جہر ولود پارہ آئی دی۔

استاذ :- ددے ترکیب لوکرہ ؟

شاگرد :- یاء حرف نداء قائم مقام دَا دُعُوًا - اَدْعُوْ صیغہ دو احد متکلم ضمیر پکینے مستتر دے  
چہ تعبیر ترینہ کیدے شی پہ آنا سرہ - ہغہ کے فاعل - اَنَا مبینی علی الصَّمۃ - موصوف،  
ہا حرف تنبیہ مبینی بر سکون - اَلْمُرْمِلُ صفت - موصوف سرہ د صفت نہ منادی مفعول  
بہ د پارہ دَا دُعُو - اَدْعُوْ فعل سرہ د فاعلہ او سرہ د مفعول بہ نہ جملہ فعلیہ نداء شوہ -  
قُو - فعل امر ضمیر پکینے مستتر دے چہ تعبیر ترینہ کیدے شی پہ اَنْتَ سرہ ہغہ کے فاعل -  
اللَّیْلُ مُسْتَثْنٰی مِنْ اَللَّیْلِ - حرف استثنائی - قَلِيْلًا مُسْتَثْنٰی - مستثنیٰ منہ سرہ د مستثنیٰ منہ  
مفعول فیہ شوہ پارہ د قُو - قُو - فعل سرہ د خیل فاعل او سرہ د مفعول فیہ نہ جملہ فعلیہ  
انشائیہ جواب نداء شوہ - بیا نداء سرہ د جواب نداء نہ جملہ نداءئیہ انشائیہ شوہ .

یہ قرآن کریم کینے چہ کوم ہائے داسے ایتونہ راشی - چہ ہغے کینے د منادی پہ شروع کینے  
اِيْهَا يٰۤاَيُّهَا مَعْظَمًا وِی - نوہ ہغے تراکیب ہم ددے ایت پہ ترکیب باندے قیاس کوئی .

استاذ :- يٰۤاَيُّهَا مَعْظَمًا قَدْ صَدَقْتَ الرَّوِّيَا - دا کومہ جملہ دہ ؟

شاگرد :- دا جملہ نداءئیہ دہ .

استاذ :- تاہ خنکر معلومہ شرہ چہ دا جملہ نداءئیہ دہ ؟

شاگرد :- ددے پہ شروع کینے یاء حرف نداء راغلے دہ .

استاذ :- کوم ہائے چہ حرف نداء وی ہلتے کینے د کومو خیزونو پیزندل ضروری دی ؟

شاگرد :- دخلو و خیزونو پیزندل ضروری دی . (۱، منادی - (۲، منادی، (۳) حرف نداء،  
(۴) جواب نداء -

استاذ :- پہ دے مثلاً کینے دغہ خلو، خیزونہ بیان کرہ ؟

شاگرد :- منادی اللہ تعالیٰ دے - منادی حضرت ابراہیم دے - حرف نداء یاء دہ - او جواب نداء  
قَدْ صَدَقْتَ الرَّوِّيَا دے .

استاذ :- ددے نداءئیہ جملے مختصر ترکیب اوکرہ ؟

شاگرد :- یاء حرف نداء قائم مقام دَا دُعُو دَا - اَدْعُو - فِعْل - ضمیر د انا پکینے مستتر د ہغہ کے

فاعل شوہ - ابراہیم منادی مفردہ معرفہ مبینی بر صمۃ مفعول بہ شوہ اَدْعُو د پارہ - فعل

سرہ د فاعل او سرہ د مفعول بہ نہ جملہ فعلیہ نداء - قد حرف تحقیق مع التَّوْبِیُّ صَدَقْتَ فعل

لوت - ہ فاعل شوہ - الرَّوِّيَا مفعول بہ شوہ فعل سرہ د فاعل

فعلیہ خبریہ جراً نداء (مقصد بالنداء) نداء سرہ د جواب نداء نہ جملہ انشائیہ نداءئیہ شوہ .

## دچار مجرور د ترکیب حل کو لو طریقہ

د ظرف قاعدہ: - ظرف پہ دوہ قسمہ دے، ظرف حقیقی، ظرف مجازی۔

۱- ظرف حقیقی :- ظرف زمان او ظرف مکان تہ ظرف حقیقی وائی۔

۲- ظرف مجازی :- جار مجرور تہ ظرف مجازی وائی۔

جار مجرور تہ ظرف مجازی حکہ وائی۔ چہ د ظرف معنی دہ «لونیئہ» نو د حرف

جر مدخول ہم د فعل او شبہ فعل معنی د پارہ پہ منزلہ د «لونیئہ» وی، لک: خَمَّ اللّٰهُ عَلٰی

قُلُوْبِهِمْ۔ اوس د علی مدخول قُلُوْبِهِمْ د خَمَّ د پارہ پہ منزلہ د لونیئہ دے حکہ چہ دغہ د

کافرانو پہ زہونویان دے لکیدے دے۔

ظرف مجازی پہ دوہ قسمہ دے (دغہ شان بعضہ ظرف حقیقی لک: قَبْلُ، بَعْدُ وَغَیْرُ

ہم پہ دوہ قسمہ دی) ۱- ظرف مُستقر - ۲- ظرف لَقُوْ .

ظرف مستقر: - ہفہ ظرف دے۔ چہ د ہفہ متعلق محذوف وی۔ روستو بیا عام دے

خواہ کہ افعال عامہ نہ وی، یا افعال خاصہ نہ وی۔ عند البعض د ظرف مستقر تعریف دادے چہ

ظرف مستقر ہفہ ظرف دے۔ چہ د ہفہ متعلق محذوف وی او افعال عامہ کینے وی۔

د افعال عامہ تعریف: - ما لا یخلوا عنہ فعل۔

یعنی افعال عامہ ہفہ دی چہ د ہفہ نہ ہیخ یو فعل خالی نہ وی۔ افعال عامہ ائہ دی۔ خلوا

مشہور دی او خلوا غیر مشہور دی۔

خلوہ مشہور لہ شاعر پہ شعر کینے ذکر کری دی :

افعال عامہ چہار اند نزد ارباب عقول

کون است وجود است و ثبوت و حصول

خلوہ غیر مشہور دا دی :- تلبس ، لصوق ، لسوق ، لذوق ۔ د خلوہ معنی

دہ - پیوست کیدل۔

د افعال خاصہ تعریف: - ما یخلوا عنہ فعل۔

افعال خاصہ ہفہ دی۔ چہ ہفہ نہ فعل خالی وی۔ د دغہ ائہ افعال عامہ نہ علاوہ باقی

قول افعال خاصہ دی۔ حکہ چہ دغہ ائہ افعال عامہ نہ علاوہ چہ شوموع افعال دی ہفہ بہ ضرور

نہ ضرور خہ نہ غہ فعل نہ خالی وی۔ لک: ضَرَبَ - نَصَرَ۔ مثلاً دَا دَ اَكَلَ او شَرَبَ والا فعل

نہ خالی دی۔ لیکن افعال عامہ نہ ہیخ یو فعل خالی نہ دے۔ وجود، ثبوت، کون او حصول نہ دہا

ہیخ یو فعل خالی نہ دے۔ مثال ۱۔ قِرَاةً۔ لوہتل یو فعل دے۔ پہ دے کہنے یا خُلوہ واپی  
افعال موجود دی۔ لوہتل دا "کون" دے۔ لوہتل ثابت دی۔ دَأْتِبُوتٌ دے۔ لوہتل حاصل  
دی دا حصول دے۔ لوہتل موجود دی۔ دا "وجود" دے۔

ظرف لغو :- ظرف لغو ہفہ دے چہ د ہفہ متعلق ذکر وی۔ اودا امام دے۔ کہ افعال متعلق  
نہ وی او کہ افعال خاصہ نہ وی۔ عند البعض ظرف لغو ہفہ دے۔ چہ د ہفہ متعلق افعال  
خاصہ کہنے وی۔ خواہ کہ مذکور وی او خواہ کہ محذوف وی۔

د ظرف لغو علامات :- د فعل نہ پس، اسم قاعل نہ پس، اسم مفعول نہ پس، اسم تفضیلا  
نہ پس، صفت مشبہ نہ پس، او مصدر نہ پس چہ کوم جار مجرور لاشی۔ نو د ہفہ جار مجرور  
بہ ہم ہفہ فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ پر رہے متعلق وی کوم چہ معنی ذکر دے  
لکہ: خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ۔ دا  
قول ظرف لغو دی۔ حکم چہ دوئی متعلق ما قبل ذکر دے۔

د ظرف لغو تسمیہ وجہ :- ظرف لغو تہ حکم ظرف لغو وائی۔ چہ د لغو معنی نہ،  
محرومہ کیدل، نو ظرف لغو تہ ظرف لغو ہم پہ دے وجہ سر وائی۔ چہ دے ہم د خیل عمل  
پہ حائے باندے د قراری نیول نہ محرومہ وی۔ حکم چہ عامل پخپلہ ما قبل ذکر وی۔

د ظرف مستقر تسمیہ وجہ :- ظرف مستقر تہ مستقر حکم وائی چہ مستقر مشتق  
دے د استقرار نہ۔ اود استقرار معنی دے۔ قراری نیول۔ نو ظرف مستقر ہم د خیل عامل  
پہ حائے کہنے قراری نیسی۔ حکم و تہ ظرف مستقر وائی۔ لکہ: اَلْحَمْدُ ثَبَتَتْ لِلّٰی۔ کَبَّتْ عَامِل  
حذف شو او ظرف مستقر ددہ پہ حائے باندے اودریلو۔

## د ظرف مستقر د حایونو بیان

ظرف مستقر پہ خلوہ و مقاما تو کہنے واقع کیری۔ خبر۔ صیغہ صفت۔ حال۔  
پہ مقام د خبر کہنے بہ ہم وی کلمہ چہ مخکنے ترینہ مبتدا وی۔ پہ مقام د صیغہ کہنے بہ ہلوہ  
کلمہ چہ مخکنے اسم موصول وی۔ پہ مقام د صفت کہنے بہ ہم وی کلمہ چہ مخکنے موصوفی  
پہ مقام د حال کہنے بہ ہم وی کلمہ چہ مخکنے ذوالحال وی۔

مقام د خبر :- کہ چرے ظرف مستقر پہ مقام د خبر کہنے وی۔ فردہ پہ متعلق  
کہنے اختلاف دے۔ او دوہ مذہب دی۔ یو مذہب د بصریانو دے او دوہ مذہب  
د کوفیانو دے۔

**بصریان** :- بصری حضرات وائی چہ موبز ددہ متعلق فعل را اویاسو۔ حکم چہ ظرف مستقر دخیل عامل پہ حائے کئے واقع شوی دے۔ او اصل پہ عمل کئے فعل دے۔ پہ دے وجہ موبز ددہ متعلق فعل را اویاسو۔ لکہ الحمد للہ (ای ثابت للہ) او کوفیان وائی :- چہ موبز ددے متعلق اسم را اویاسو حکم چہ ظرف مستقر پہ مقام د خبر کئے واقع شوی دے۔ او اصل پہ خبر کئے افراد دے۔ نو اسم ہم مفرد ہے نہ چہ جملہ وی۔ لہذا د کوفیانو پہ نزد تقدیر د اصل مہارت بہ دایسے وی : الحمد للہ ای ثابت للہ .

**مقام وصلے** :- ظرف مستقر کہ چرے پہ مقام وصل کئے وی نو بیاد ہے متعلق بہ فعل را اویاسو۔ حکم چہ صلہ جملہ وی او فعل ہم سرہ دخیل فاعل نہ جملہ وی۔ لکہ : وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (ای سبوا من قبلكم) .

**مقام صفت** :- ظرف مستقر کہ چرے پہ مقام صفت کئے واقع وی نو اکثر علماء د ہفہ متعلق فعل را اویاسی او بعضی علماء د ہفہ متعلق اسم را اویاسی۔ لکہ : عَلِيٌّ مَعْنَى فِي نَفْسِهَا (ای تَبَّتْ أَوْ ثَابَتْ فِي نَفْسِهَا) .

**مقام حال** :- ظرف مستقر کہ چرے پہ مقام حال کئے واقع وی۔ نو اکثر علماء د ہفہ متعلق فعل او بعضی علماء د ہفہ متعلق اسم را اویاسی۔ لکہ :- قَالَتِ الْفُطَيَّةُ مِنْهَا عَلَى نَوْعَيْنِ (ای تَبَّتْ أَوْ ثَابَتْ مِنْهَا) .

**فائلہ** :- چرتہ چہ جار مجرور وی۔ خو پہ دے شرط چہ ہفہ جار مجرور زائد نہ وی۔ نو ہفہ یا خو بہ ظرف مستقر وی (اگرچہ پہ خلور و مقاماتو کئے واقع وی) یا بہ ظرف لغو وی (اگرچہ بظیر و خیزو نونہ پس واقع وی) .

**دحروف جارہ وجہ د تسمیہ** :- حروف جارہ تہ جارہ پہ دے وجہ وائی چہ جارہ

دے دجبرونہ او دجبر معنی دہ «راہیکل» ہر کہ چہ حروف جارہ ہم د ماقبل فعل یاد شبہ فعل معنی را کبری او خیل مدخول پورے رسوی۔ نو پہ دے وجہ سرکہ دے تہ حروف جارہ وائی۔ او پہ دے وجہ سرے وائی۔ چہ دحرف جبر مثال پہ شان دقلی (بوجہ اوچتوونکے) دے

لکہ حنکہ چہ دقلی (مزدور) کار داوی چہ ستیشن نہ سامان اوچتہ کری او کاوی تہ بے رسوی نزدغہ شان دحرف جبر کار ہم دادے چہ د ماقبل فعل یاد شبہ فعل معنی اوچتہ کری او خیل مدخول تہ بے اورسوی۔ لکہ :- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ اوس علی دلہ کئے دختم (مہر) معنی واخیستہ او خیل مدخول قلوبہم تہ بے اورسوی۔ اوس معنی دا شہ۔ چہ اللہ پاک مہر لکولے

دے ددویٰ پہ زہ و نوبانڈے۔ کہ چرے لفظ دَعَلَىٰ نہ وے۔ فرد امھر پہ کتاب بانڈے لکیدے شو  
 پہ جامہ ہم لکیدے شو۔ لیکن عَلَىٰ ددے مھر تعلق د دنیا و ہولو غیزونونہ پرتا کرد  
 او خپل مدخول سرے یٰ یوحائے کروچہ دامکر دکافرانو پیر زہ و نوبانڈے لکیدے دے۔  
**فائدہ :-** کہ چرے جار مجرور نہ مخکینے فعل، اسم فاعل او اسم مفعول وغیرہ گنر متعلقہ  
 ذکر وی۔ نو داجار مجرور یہ ہفہ سرہ متعلق وی، کوم سرہ چہ د تعلق پہ بنا بانڈے معنی صحیح  
 وی لکہ: **قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ**۔ اوس پہ دے مثلاً کینے د جار مجرور متعلق کینے دُو  
 احتمال دی۔ **قَدْ تَرَىٰ** بہ (فعل وی) **يَا تَقَلُّبَ** بہ (مصدر وی)۔ اوس کہ چرے **قَدْ تَرَىٰ** د فعل  
 سرہ متعلق کرو نو معنی بہ داشی۔ **يَقِينًا** موبن کرور پہ آسمان کینے۔ دامعنی صحیح نہ  
 دہ۔ **حُكْمٌ** چہ دلہ کینے خو مقصود **دَاللَّهِ تَعَالَىٰ خَيْلٌ رُوِّتِ فِي السَّمَاءِ** بیا قول نہ دی۔ نو کہ  
 چرے جار مجرور **دَتَقَلُّبَ** مصدر سرہ متعلق کرو۔ نو حرف جر بہ **دَتَقَلُّبَ** معنی خپل  
 مدخول **السَّمَاءِ** سرہ یوحائے کرہی او معنی بہ دامشان شی۔ پہ تحقیق سرہ موبن وینو  
**اَہْوَلٌ** د مخ مبارک ستا طرف د آسمان تہ۔ نو اوس معنی صحیح شوہ۔

## د جار مجرور اجراء

استاذ :- د جار مجرور مثلونہ راؤ پاسہ ؟  
 شاگرد :- **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ - وَلَا تَسْبُوا لَعَنَ بِالْبَاطِلِ - فَانصَبُوا وَجوهَكُمْ وَ**  
**أَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .**

استاذ :- دریم آیت کینے **إِلَى الْمَرَافِقِ** دا ظرف ستقر دے کہ ظرف لغو ؟  
 شاگرد :- دا ظرف لغو دے۔

استاذ :- تاتہ خنکہ معلومہ شوہ ؟

شاگرد :- ماتہ د ظرف لغو د علاقے نہ معلومہ شوہ **حُكْمٌ** چہ تاسو موبن کہہ د ظرف لغو  
 علامتو کینے د ابنودی دی چہ د فعل نہ پس یا د اسم فاعل نہ پس یا د اسم مفعولہ  
 پس چہ کوم جار مجرور راشی نو دا بہ ہم ہفہ فعل سرہ متعلق وی۔ پہ دے وجہ سرہ  
 موبن عرض کروچہ **إِلَى الْمَرَافِقِ** ظرف لغو دے اوڈ **فَانصَبُوا** فعل سرہ متعلق دے۔

استاذ :- داد وجوہکم سرہ متعلق کیدے شی ؟ کہ نہ ؟

شاگرد :- نہ جی ! **حُكْمٌ** چہ یو خودا اسم جامد دے۔ لو اسم جامد بغیر د تلویل نہ نشو متعلق  
 کیدے۔ دوپہ وجہ دادہ۔ چہ کہ چرے تہ **إِلَى الْمَرَافِقِ وَجوهَكُمْ** سرہ متعلق کرہے

نومعنی کیے فسار راجی۔ حکم چہ دحرف جر کار دادے۔ چہ دے کوم لفظ سرہ متعلق شی تودھ  
 معنی خیل مدخول طرف تہ راکازی۔ نوپہ دے اعتبار سرہ بہ معنی داشی چہ « ستاسو مخونہ  
 خنگلو پورے دی » نوآیا دخلقو مخونہ خنگلو پورے اور دکاوی ؟ « حال داچہ دمخ اور دی  
 خنگلو پورے نہ دے۔ بلکہ د ذقن (زینے) لاندے پورے دے۔ دغہ شان آیدیکم سرہ عہ  
 نہ نشو متعلق کولے حکم چہ بیا بہ لے مطلب داشی۔ چہ ستاسو لاسونہ تر خنگلو پورے دی  
 حال داچہ دلاس اوپرد والے خنگلو پورے نہ بلکہ اوڑے پورے دے۔ لہذا ہرکچہ دے دواہر  
 سرہ نہ شی متعلق کیدے۔ نو بیا اومنہ چہ دقاغسلوا سرہ متعلق دے۔ اودھے معنی راکازی  
 اوخپل مدخول تہ لے رسوی۔ نومعنی بہ داسے شی چہ اووینعی تاسو خیل مخونہ اوخپل  
 لاسونہ تر خنگلو پورے۔ یعنی آلی د وینخلو معنی خیل مدخول آلی المرافق پورے اور سولہ۔  
 استاذ :- شرح مائتہ عامل نوع اول کینے الباء للالصاق کینے للالصاق، اللام للاختصاص کینے  
 للاختصاص أو الواو للقسم کینے للقسم طرف مستقر دے یا کہ طرف لغو دے ؟  
 شاگرد :- ظرف مستقر دے۔

استاذ :- ظرف مستقر خذتہ وائی ؟ شاگرد :- چہ دھض متعلق محذوف وی۔  
 استاذ :- ظرف مستقر بہ ثمرہ خایونو کینے واقع کینے ؟ شاگرد :- بہ خلو ر خایونو کینے۔  
 استاذ :- دلہتہ کینے پہ کوم مقام کینے دے ؟ شاگرد :- پہ مقام دخیر کینے دے۔  
 استاذ :- تاتہ خنگ معلومہ شوہ چہ پہ مقام دخیر کینے دے ؟  
 شاگرد :- ذاسمیہ جملے د پنجم نمبر علامے نہ معلومہ شوہ چہ د کلام پہ شروع کینے  
 الف لام والا اسم راشی اوھے نہ پس جار مجرور راشی تودھے بہ ہمیشہ  
 د پارہ مبتداء دخیر وی۔

استاذ :- ددے محذوف متعلق بہ خذہ راوباسو ؟  
 شاگرد :- ددے بہ دوہ متعلقہ راوباسو۔ ثببت یا ثابتہ۔ حکم چہ ظرف مستقر  
 کہ چہ پہ مقام دخیر کینے وی۔ تودھے بہ دوہ متعلقہ راوباسو۔ پہ نزد  
 بصریانوفعل۔ اوپہ نزد۔ دکوفیان اسم۔

لہذا مختصر ترکیب لے دادے چہ ثببت یا ثابتہ۔ اسم فاعل، ضمیر پکینے  
 بہ متردے۔ چہ تعبیر ترینہ کیدے شی پہ ہی سن۔ ہفہ لے فاعل۔ نو اسم فاعل سرہ د  
 خپل فاعل او متعلق نہ خبر د مبتداء شو۔ (چہ ہض الباء، اللام، الواو دی) او مبتداء  
 سرہ د خپل خبر نہ جملہ اسمیہ خبریہ شوہ۔

## د عدد فائدہ مند بحث

یعنی د ممیز۔ تمیز د ترکیب حد کولو طریقہ

د عدد لغوی معنی دہ شمیرل۔ پہ اصطلاح کہنے د عدد دہ تعریف دی

ع ۱۔ العدد ما یعدُّ بہ

عدد ہفتہ دے چہ د ہفتہ پہ ذریعہ سرع یوخیز شمار کرے شی۔ ددے حضراتو

پہ نزد باندے۔ عدد یونہ شروع کیڑی۔

ع ۲۔ العدد نصف مجموع الحاشیئین۔ (دو وحاشیہ د مجموعے نیم)

مثال ۱۔ دوکا عدد دے۔ حکم چہ داد دو حاشیہ د مجموعے نیم دے۔ حکم چہ دو

لاندے حاشیہ یونہ اوہ پاسہ درے دی۔ داد وارہ حاشیہ چہ جمع کرے۔ نو مجموعے

خلور دی۔ اوہ خلورو د مجموعے نصف دوکا دی۔ ددے حضراتو پہ نیز۔ عدد دوون

شروع کیڑی۔ حکم چہ دیو پاسنی حاشیہ شتہ دے اولاندینی لے نشتہ دے۔

ھر عدد کہنے ابہام وی۔ دے نہ پس چہ کرم یولفظ د عدد ابہام لے کرے۔ نو ہفتہ

تمیز وائی۔ د مثال پہ طوب باندے قران کریم کہنے موجود دی

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

دکھ چہ یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام اوہ ما نیل خیل پلارتہ چہ ما اولیدل یوللس۔ اوس یولس

کہنے ابہام دے۔ یولس لے ختہ اولیدل؟ کلہ چہ لے کوکبا او ویل نو ابہام لے شو۔ چہ ملد

د یولس نہ ستوری دی۔ اوہ تعبیر کہنے د یولس ستور ونہ مراد د حضرت یوسف علیہ

الصلوٰۃ والسلام یولس روشرہ دی۔

اوس وپاندے۔ پہ اعتبار د تمیز سرہ پہ درہ قسمہ دے۔

عدد اقل :- در یونہ واخلہ تر لسو پورے۔ دے تہ عدد اقل وائی۔

عدد اوسط :- یولس ونہ واخلہ تر یوکہ لسو پورے د اعداد اوسط دے۔

عدد اکثر یا عدد اعلی :- سلونہ واخلہ تر مالانہایتہ پورے۔ دے تہ عدد اکثر

ا و عدد اعلی وائی۔

## د تمیز اعراب بارہ کہنے ضروری ضوابط

عدد اقل :- تمیز د عدد اقل پہ ہمیشہ د پارہ جمع مجرور وی۔ خلاف العقل پہ وی

خوش شرط پکینے دادے۔ چہ د عدد اقل تمیز پخپل لفظ د مائتہ نہ وی۔ کہ چہ د عدد اقل

تمیز پخپلہ لفظ و ماۓ وو۔ نوبیا بہ مفرد مجرور وی لکہ تَلْتُ ماضی - د عدد اقل تمیز بہ  
خلاف العقل وی۔ دخلاف العقل کیدو مطلب دادہ ہے کہ چرے تمیز مذکر وی۔ نوز عدد بہ  
مؤنث راوپے او کہ چرے تمیز مؤنث وی نوز عدد بہ مذکر راوپے۔۔ مثال :-  
ثَلَاثَةُ رِجَالٍ او چہ تمیز مؤنث وی نوز عدد بہ مذکر راوپے، لکہ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ .  
پہ قرآن مجید کجے د تہو لو مثالونہ موجود دی .

مثال د دریو :- ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ .

مثال د خلورو :- اَرْبَعَةُ اشْهُرٍ .

مثال د پنجو :- بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ .

مثال د شپہرو :- فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تَعْرِى السَّوْدَى عَلَى الْعُرْسِ .

مثال د اوو :- سَبْعَ لَيَالٍ .

مثال د اتو :- ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ .

مثال د نہو :- تِسْعَةَ رَهْطٍ .

مثال د لسو :- مِنْ عَشْرَةِ صَاكِيْنَ .

فَاكِلًا :- یو او دوہ (واحد - اثنان) خپل تمیز سرہ نہ ذکر کین ی حکم چہ دیو

او دوو معنی پخپلہ د ہغوے د تمیز نہ حاصلین ی، لکہ : رَجُلٌ او رَجُلَانِ - رَجُلٌ

یو سرے او رَجُلَانِ (دوہ سرے) - اوس دیو او دوو معنی د رَجُلٌ او رَجُلَانِ نہ حاصلہ

اوسط عدد :- تمیز د اوسط عدد بہ ہمیشہ د پارہ مفرد منصوب وی۔

|    |   |    |
|----|---|----|
| ۱۱ | - | ۱۲ |
| ۲۱ | - | ۲۲ |
| ۳۱ | - | ۳۲ |
| ۴۱ | - | ۴۲ |
| ۵۱ | - | ۵۲ |
| ۶۱ | - | ۶۲ |
| ۷۱ | - | ۷۲ |
| ۸۱ | - | ۸۲ |
| ۹۱ | - | ۹۲ |

دے تہو لو اعداد و تمیز بہ موافق العقل وی۔ یعنی چہ تمیز مذکر وی نو د

مدد دواہرہ جزۃ بہ مذکور وی۔ کہ چرے تمیز مؤنث وی نو عدد دواہرہ جزہ بہ مؤنث وی۔

بالترتیب مثالونہ دادی :- أَحَدٌ عَشْرٌ رَجُلًا = احدى عشرة امرأة

اثنا عشر رجلاً ~ اثنتا عشرة امرأة

أحد وعشرون رجلاً ~ إحدى وعشرون امرأة

اثنان وعشرون رجلاً ~ اثنتان وعشرون امرأة

أحد وتسعون رجلاً ~ احدى وتسعون امرأة

اثنان وتسعون رجلاً ~ اثنتان وتسعون امرأة

د ۱۳ نہ داخل تر ۱۹ پورے : ۶۳ نہ داخل تر ۶۹ پورے۔

د ۲۳ نہ داخل تر ۲۹ پورے : ۷۳ نہ داخل تر ۷۹ پورے

د ۳۳ نہ داخل تر ۳۹ پورے : ۸۳ نہ داخل تر ۸۹ پورے

د ۴۳ نہ داخل تر ۴۹ پورے : ۹۳ نہ داخل تر ۹۹ پورے

د ۵۳ نہ داخل تر ۵۹ پورے . د ۵۴ تمیز بہ خلاف العقل وی .

کہ چرے تمیز مؤنث وی نو عدد بہ پہ دو وجز ونوکے وی اولے جزہ بہ مذکر

وی۔ اوکہ چرے تمیز مذکر وی۔ نو عدد اولے جزہ بہ مؤنث وی۔

بالترتیب مثالونہ :- مثال د دیارلس عدد = ثلثة عشر رجلاً - ثلث عشرة امرأة۔

مثال د ۲۳ عدد ثلثة وعشرون رجلاً - ثلث وعشرون امرأة

قرآنی مثالونہ :- أَحَدٌ عَشْرٌ كُوفِيًّا - فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا .

فائلہ :- اتمہ عقود داسے دی کہ حانثہ استعمال وی۔ یا کہ چرتہ بل عدد سہ استعمال

وی۔ ہمیشہ بہ پہ یو حال باندے وی۔ خواہ کہ تمیزے مذکر وی یا مؤنث - حضرتہ

عقود دادی :- عِشْرُونَ - ثَلَاثُونَ ، أَرْبَعُونَ - خَمْسُونَ - سِتُّونَ - سَبْعُونَ - ثَمَانُونَ

تِسْعُونَ . لکہ مثالہ :- عِشْرُونَ رَجُلًا - عِشْرُونَ امْرَأَةً

عدد اکثر یا عدد اعلیٰ :- عدد اعلیٰ تمیز بہ مفرد مجرور وی .

مِائَةٌ رَجُلٍ - مِائَةٌ عَامٌ تَقَدَّ بَعَثُهُ ، أَلْفٌ سَنَةٍ ، مِائَتِي دِرْهَمٍ .

فائلہ :- پہ مقام د تمیز کجے عدد اعلیٰ نہ مراد صرف پفعہ عددہ دی ۔ مِائَةٌ ،

مِائَتَانِ ، أَلْفٌ - أَلْفَانِ - أَلْفٌ .

فائلہ :- ترجمہ د ممیز او تمیز بہ د ممیز نہ شروع کیزی .

مثالہ :- أَحَدٌ عَشْرٌ كُوفِيًّا (یوولس ستوری) .

**فائدة :-** پوهہ شہ چہ د اعدادو مراتب دادی :- اِکائی (یریز) ، دہائی (لسیز) ، سنکڑ (سلیز) ، ہزار (زریز) ، دس ہزار (لس زریز) ، لاکھ (سل زرہ) ، دس لاکھ (میلیارڈ) ، دس کروڑ (لس میلیون) ، دس کروڑ (سل میلیون) ، ارب (میلیارڈ) ، دس ارب (لس ملیارڈ) ، دس ارب (سل ملیارڈ) ، نیل - دس نیل ، پدم ، دس پدم ، سنکھ - دس سنکھ - مہاسنکھ ۔

**اعداد :-** وَاحِدٌ ، اِثْنَانِ ، ثَلَاثَةٌ ، اَرْبَعَةٌ ، خَمْسَةٌ ، سِتَّةٌ ، سَبْعَةٌ ، ثَمَانِيَةٌ ، تِسْعَةٌ ، عَشْرَةٌ ، اِحْدَ عَشْرٍ ، اثْنَا عَشْرٍ ، ثَلَاثَةَ عَشْرٍ ، اَرْبَعَةَ عَشْرٍ ، خَمْسَةَ عَشْرٍ ، سِتَّةَ عَشْرٍ ، سَبْعَةَ عَشْرٍ ، ثَمَانِيَةَ عَشْرٍ ، تِسْعَةَ عَشْرٍ ، اِحْدَ وَعَشْرُونَ ، اِثْنَانِ وَعَشْرُونَ ، ثَلَاثَةَ وَعَشْرِينَ ، اَرْبَعَةَ وَعَشْرُونَ ، خَمْسَةَ وَعَشْرُونَ ، سِتَّةَ وَعَشْرُونَ ، سَبْعَةَ وَعَشْرُونَ ، ثَمَانِيَةَ وَعَشْرُونَ ، تِسْعَةَ وَعَشْرُونَ ، ثَلَاثُونَ - اَرْبَعُونَ ، خَمْسُونَ ، سِتُّونَ ، سَبْعُونَ ، ثَمَانُونَ ، تِسْعُونَ ، مِائَةٌ ، مِائَتَانِ ، ثَلَاثَ مِائَةٍ ، اَرْبَعَ مِائَةٍ ، خَمْسَ مِائَةٍ ، سَبْعَ مِائَةٍ ، ثَمَانِ مِائَةٍ ، تِسْعَ مِائَةٍ ، اَلْفٌ ، اَلْفَانِ ، ثَلَاثَةُ اَلْفٍ ، اَرْبَعَةُ اَلْفٍ ، خَمْسَةُ اَلْفٍ ، سِتَّةَ اَلْفٍ ، سَبْعَةَ اَلْفٍ ، ثَمَانِيَةَ اَلْفٍ ، تِسْعَةَ اَلْفٍ ، عَشْرَةَ اَلْفٍ - مِائَةُ اَلْفٍ لَآكِهِ ، اَلْفٌ اَلْفٍ يَآ مِئِلْيُونِ ، دَسَ لَآكِهِ - عَشْرَةُ مِئِلْيُونِ كِرُوْپٍ مِائَةُ مِئِلْيُونِ ، دَسَ كِرُوْپٍ اَلْفِ مِئِلْيُونِ ، اَرْبَعَةَ عَشْرَةَ اَلْفٍ مِئِلْيُونِ ، دَسَ اَرْبَعِ مِائَةِ اَلْفِ مِئِلْيُونِ ، كِهْرِبِ . اَلْفِ اَلْفِ مِئِلْيُونِ يَآ بِيْلْيُونِ ، دَسَ كِهْرِبِ عَشْرَةَ بِيْلْيُونِ ، نَيْلِ مِائَةِ بِيْلْيُونِ ، دَسَ نَيْلِ اَلْفِ بِيْلْيُونِ ، پَدَمِ - عَشْرَةَ اَلْفِ بِيْلْيُونِ ، دَسَ پَدَمِ - مِائَةُ اَلْفِ بِيْلْيُونِ سَنَكِهِ - اَلْفِ اَلْفِ بِيْلْيُونِ يَآ تَرِيْلْيُونِ ، دَسَ سَنَكِهِ - عَشْرَةَ تَرِيْلْيُونِ ، مِهَاسَنَكِهِ ۔

د نقطو پہ لحاظ سرہ دے ہم فرق معلوم کرے شی۔ کہ چرے دیو عدد بنی طرف تہ یوہ نقطہ وی۔ نو داد لسو عدد دے۔ کہ چرے دوہ نقطے وی نو د تسلو عدد دے، کہ چرے درے نقطے وی نو در ز عدد دے۔ کہ چرے ثلور وی نو د تسر ز عدد دے۔ کہ چرے پٹھہ وی نو زیاد سلزرو (یو لاکھ عدد دے، کہ چرے شپڑوی نو د لس لکھو عدد دے۔ دغہ شان یو یو نقطے زیاتی کیدوسرہ بہ عدد زیاتی تیری۔ تردے چہ بہ یو مہاسنکھ کجہ د یو عدد بنی طرف تہ نو د لس نقطے وی۔ چہ ہغے تہ عربی کبے عشرہ تریلیون والی۔

### د مميزات اجراء

استاذ :- د مميزات اجراء مثالونہ راؤ باسہ ؟

شاگرد :- وَوَعَدْنَا مُوسَى اَنْ نُّبَلِّغَهُنَّ كَثِيْرًا - وَالْمُعْتَلَقَاتُ يَتَرَبَّعْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ مِثْلًا لِّتِلْكَ قُرُوْبٍ

استاذ ۱۔ یہ دو مبنی مثال کبھی ثلاثین کا کوم عدد دے ؟  
شاگرد ۱۔ دا عدد اوسط دے ۔

استاذ ۱۔ ددے تمیز خہ دے ؟ شاگرد ۔ تمیز د عدد اوسط مفرد منصوب وی ۔

استاذ ۱۔ ثَلَاثِينَ كَيْلَةَ مَمِيْز او تمیز دا پورا جملہ وی او کہ جز د جملے وی ؟  
شاگرد ۱۔ جز د جملے وی ۔

استاذ :- دلہ کبھی کوم جز دے ؟

شاگرد :- داممیز او تمیز د وعدنا د پارہ دویم مفعول کرجی ۔

استاذ :- پورہ ترکیب او کرہ ؟

شاگرد :- واو قرآنیہ ۔ وَاَعْدُنَا ۔ فعل او ناصیر د فاعل ۔ موسیٰ ۔ مفعول اول ۔ ثَلَاثِينَ اسم

عدد مبہم ممیز فاصب التمییز ، لیلۃ ۔ تمیز منصوب بالمتحہ لفظاً ۔ ممیز سرہ

د تمیز نہ مفعول ثان ۔ وَاَعْدُنَا فعل د پارہ ۔ وَاَعْدُنَا فعل سرہ د خیل فاعل نہ او سرہ

د وار و مفعول نہ جملہ فعلیہ خبریہ شوہ ۔

استاذ ۱۔ شرح مائتہ عامل نہ د ممیز او تمیز مثالونہ راؤ باسہ ؟

شاگرد :- وَهِيَ (الحروف الجارة) سبعة عشر حُرُوفًا وَهِيَ سِتَّةٌ حُرُوفٍ ۔ وَهِيَ اَرْبَعَةٌ

اَحْرُوفٍ ۔ وَهِيَ خَمْسَةٌ اَحْرُوفٍ ۔ وَهِيَ تِسْعَةٌ اَسْمَاءٍ ۔

استاذ :- سِتَّةٌ دا کوم عدد دے ؟ شاگرد ۱۔ دا عدد اقل دے ۔

استاذ :- ددے تمیز خہ راجی ؟

شاگرد ۱۔ ددے تمیز جمع مجرور راجی ۔ یعنی کہ تمیز مذکر وی ۔ نو عدد بہ لے مؤنث

وی ۔ او کہ چرتہ تمیز مؤنث وی ۔ نو عدد بہ لے مذکر راجی ۔ لکہ خنکہ چہ بہ چہ

مثال (سِتَّةٌ اَحْرُوفٍ) کہہ ددے تمیز جمع مجرور دے ۔ او خلاف العقل دے ۔

استاذ :- زما گرانہ طالبہ ! ستاپہ ذہن کبھی خہ دا سہ یوحاے شتہ چہ ہفے کبھی د ممیز او تمیز

یکمشت دیر مثالونہ ملاؤ شی ؟

شاگرد :- ہو جی ! قرآن کریم کہہ کوم حائے نہ چہ دسوم تو نو ابتداء کیڑی ۔ او د ہفے پہ ابتداء کبھی

یوہ کرینہ لیکے شوے وی ۔ چہ پہ ہفے کبھی در کوع او د آیتونہ د تعداد بیان وی

نورہلتہ کبھی بہ ۔ دا اسم عدد مبہم ممیز او د ہفے د تمیز یوحاے خوار کس مثالونہ ملاؤ ملی

ہلتہ کبھی د ممیز او تمیز لو د عدد د ہفت سہ اجراء کیدے شی ۔

استاذ :- د نمونے پہ طوبی باندے د یوسوقہ ابتداء مطر (کرینہ) پیش کرہ ؟

شاہکرد۔ د سورة فاتحے پہ شروع کئے لیکے دی سورة الفاتحة - مکية و هو سنج  
آیات - د سورة رَحْمَن پہ شروع کئے لیکے دی - سورة الرَّحْمَن - مدنیة  
وَجَنِّ ثَمَانَ وَسَبْعُونَ آيَةً وَ ثَلَاثُ رُكُوعًا .

**فائدہ:** - کلمہ د سلونہ د زیات عدد یوں لفظ تمیز واقع وی نو اعراب کئے بہ د تمیز سرہ  
جخت عدد معتبر وی - یعنی کہ چرے ہفہ عدد اقل وی - نو تمیز بہ لے جمع مجروری،  
لکہ مثال: عِنْدِي مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ رِجَالًا - او کچرے عدد اوسط وی نو تمیز بہ لے مفرد  
منسوب وی، لکہ مثال: عِنْدِي مِائَةٌ وَ أَحَدٌ عَشَرَ رِجَالًا - او کچرے عدد اکثر یعنی  
عدد اعلیٰ وی - نو بیابہ د ہفہ تمیز مفرد مجروری - مثال لکہ: عِنْدِي أَلْفٌ وَ مِائَةٌ رِجُلًا .

### د اسم متمکن اعراب

اعراب د اسم متمکن پہ درے درے قسمہ دے نمبراً رَفَعِ نَبْرًا نَصْبًا نَبْرًا جَرًّا

نمبر ۱:- رَفَعِ - درے خیزو فرسہ راجی = ضمہ - واو - الف

نمبر ۲:- نَصْبِ - خلو رخیو فرسہ راجی = فتحہ - کسره - الف - یاء

نمبر ۳:- جَرِّ - درے خیزو فرسہ راجی = کسره - فتحہ - یاء -

اسم متمکن پہ لحاظ د اقسام د اعراب سرہ پہ شپارلس قسمہ دے - بیاریتو

شپارلس قسمونہ پہ دوہ قسمہ دی:

۱:- داتو قسمونو اعراب بل حرکت دی - او اعراب بل حرکت درے دی: ضمہ - کسره - فتحہ

۲:- داتو قسمونو اعراب بل حرف دی اعراب بل حرف درے دی = واو - الف - یاء

**اعراب بل حرکت:** - ہفہ اقسام چہ د ہفوی اعراب بل حرکت دی ہفہ دادی:

رَفَعِ - نَصْبِ - جَرِّ .

۱- مفرد منصرف صحیح، ضمہ (لفظی)، فتحہ (لفظی)، کسره (لفظی)

مثال:- جَاءَنِي زَيْدٌ رَأَيْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ .

۲- مفرد منصرف جار مجری صحیح:- ضمہ (لفظی)، فتحہ (لفظی)، کسره (لفظی)

مثال: جَاءَنِي دَلْوًا رَأَيْتُ دَلْوًا مَرَرْتُ بِدَلْوٍ .

۳:- جمع مکسرہ منصرف:- ضمہ (لفظی)، فتحہ (لفظی)، کسره (لفظی)

مثال:- جَاءَنِي رِجَالٌ رَأَيْتُ رِجَالًا مَرَرْتُ بِرِجَالٍ .

۴:- جمع مؤنثہ سالمہ:- ضمہ (لفظی)، کسره (لفظی)، کسره (لفظی)

|                        |                |                      |                        |
|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| مثال :-                | جاءني مسلماتٌ  | رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ | مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ |
| غیر منصرف ، ضمہ (لفظی) | فتحہ (لفظی)    | فتحہ (لفظی)          | فتحہ (لفظی)            |
| مثال :-                | جاءني أَحْمَدُ | رَأَيْتُ أَحْمَدًا   | مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ    |
| اسم مقصور              | ضمہ (تقدیری)   | فتحہ (تقدیری)        | کسرہ (تقدیری)          |
| مثال :-                | جَآئِي مُوسَى  | رَأَيْتُ مُوسَى      | مَرَرْتُ بِمُوسَى      |

|   |                  |                    |                      |
|---|------------------|--------------------|----------------------|
| غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یاء المتکلم :- | ضمہ (تقدیری)     | فتحہ (تقدیری)      | کسرہ (تقدیری)        |
| مثال :-                                   | جَآئِي غُلَامِي  | رَأَيْتُ غُلَامِي  | مَرَرْتُ بِغُلَامِي  |
| اسم منقوص :-                              | ضمہ (تقدیری)     | فتحہ (لفظی)        | کسرہ (تقدیری)        |
| مثال :-                                   | جَآئِي الْقَاضِي | رَأَيْتُ الْقَاضِي | مَرَرْتُ بِالْقَاضِي |

**تنبیہ :-** پہ نیز د نحویانو باند صحیح ہفہ دے چہ د ہفہ د لام کلیم پہ مقابلہ کئے یا لفر کئے حرف علت نہ وی۔ لہذا د نحویانو پہ نیز باندے پہ اووہ اقسامو کئے صحیح، مہمونا مثال، اجوق، مضاعف او ہفہ لفیف مقرون چہ د ہفہ د لام کلیم پہ مقابلہ کئے یا پہ آخر کئے حرف علت نہ وی۔ لکہ: وَيَلُّ، يَوْمٌ۔ دغہ مشان ہفہ ناقص چہ د ہفہ د لام کلیم پہ مقابلہ کئے حرف علت خرو وی۔ لیکن آخر کئے حرف علت نہ وی۔ لکہ: صَلَاةٌ، زَكَاةٌ۔ نو دغہ قول اقسام پہ صحیح کئے داخل دی۔ پہ دے وجہ سرہ ویلے شی چہ د نحویانو پہ نیز باند اووہ اقسام نہ دی بلکہ دوہ قسمونہ دی :- ۱۔ صحیح ، ۲۔ معقل (یعنی چہ د ہفہ د لام کلیم پہ مقابلہ کئے حرف علت وی) جاری مجری صحیح ہفہ دے چہ د ہفہ د لام کلیم پہ مقابلہ کئے حرف علت خرو وی۔ لیکن ماقبل ترینہ ساکن وی۔ لکہ :- دَلُوٌ - نَحْوٌ .

**اعراب بال حرف :-** ہفہ لثہ قسمونہ چہ د ہفونے اعراب بال حرف دے ہفہ دادی :-

|  |            |                    |                  |                      |
|--|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| ۱۔ اسماء ستہ مکثرہ مؤحدہ مضافة الی غیر یاء المتکلم : واو (لفظی) ، الف (لفظی) یا (لفظی) | مثال :-    | جَآءَنِي أَبُوكَ ، | رَأَيْتُ أَبَاكَ | مَرَرْتُ بِأَبِيكَ . |
| ۲۔ مشنی :- الف (لفظی)  | یاد (لفظی) | یاد (لفظی)         | مثال :-          | جَآءَنِي مُسْلِمَانِ |
| ۳۔ اثنان و اثنان :- الف (لفظی)   | یاد (لفظی) | یاد (لفظی)         | مثال :-          | جَآءَنِي اِثْنَانِ   |
| ۴۔ کلا و کلتا مضاف الی الْمُفْجَرُ :- الف (لفظی)                                       | یاد (لفظی) | یاد (لفظی)         | مثال :-          | جَآءَنِي كِلَاهُمَا  |

|                          |                       |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| یار (لفظی)               | یاہ (لفظی)            | وار (لفظی)            | جمع مذکر سالم :-                         |
| مَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ . | رَأَيْتُ مُسْلِمِينَ  | جَاءَنِي مُسْلِمُونَ  | مثال :-                                  |
| یاہ (لفظی)               | یاہ (لفظی)            | وار (لفظی)            | ۱- اُولُو :-                             |
| مَرَرْتُ بِأُولِي مَالٍ  | رَأَيْتُ أُولِي مَالٍ | جَاءَنِي أُولُو مَالٍ | مثال :-                                  |
| يَاء (لفظی)              | یاہ (لفظی)            | وار (لفظی)            | ۲- عِشْرُونَ يَا تِسْعُونَ :-            |
| مَرَّةٌ بِعِشْرِينَ      | رَأَيْتُ عِشْرِينَ    | جَاءَنِي عِشْرُونَ    | مثال :-                                  |
| یاہ (لفظی)               | یاہ (لفظی)            | وار (تقدیری)          | ۳- جمع مذکر سالم مضاف إلى ياء المتكلم :- |
| مَرَّةٌ بِمُسْلِمِي      | رَأَيْتُ مُسْلِمِي    | جَاءَنِي مُسْلِمِي    | مثال :-                                  |

## د اعراب شپارلس اقسام

د اعراب شپارلس اقسام په دوه برخو ويشل شوي دي . خاصه او عامه

- ۱- خاصه :- خاصه هغه دي چه هغه د مخصوصو الفاظو پرته خاص وي . يعنی هغه الفاظ چه كه موجود شي . نو هغه اقسام به موجود يږي . كني بيا به نه موجود يږي . په خاصو اقسامو كې پنځه اقسام داخل دي : ۱- اسماء مسته مكبره مؤحده مضافة الی غير ياء المتكلم . ۲- كلا وكلتا ۳- اثنان واثنان . ۴- د عشرون نه تر تيسعون پورته . ۵- اُولُو .

۲- عامه :- عامه هغه دي چه د مخصوصو الفاظو پرته خاص نه وي . يعنی ديرو اقسامو كې هغه الفاظ بيا موندلې شي . باقي يولس اقسام په عامه كې داخل دي . بيا عامه په دوه قسمه دي : منصرف . غير منصرف .

په منصرف كې لڼل اقسام داخل دي . څلور جمعه دي : (۱) جمع مكسره ، (۲) جمع مؤنث سالم ، (۳) جمع مذکر سالم ، (۴) جمع مذکر سالم چه مضاف وي يا د ضمير متكلم ته . او يوقسيم تشبيه ده . باقي پنځو قسمونو كې او كور چه په آخر د هغه كې حرف علت مشته او كه نشته . ؟ كه چرې حرف علت نه وي نو مفرد منصرف صحيح دے . او كه چرې آخر كې حرف علت وي نو بيا او كور كه چرې هغه حرف ملك واو يا يار وي . او ما قبل ترينه ساكن وي نو مفرد منصرف جار مجرماً صحيح دے . او كه چرې په آخر د هغه كې الف وي . نو بيا اسم مقصوره دے . او كه چرې په آخر د هغه كې حرف علت يا ر وي . او ما قبل ترينه مكسور وي . نو هغه به د دوو حالتونو خالي نه وي . هغه يار به د

متکلم وی یا بہ نہ وی۔ کہ چرے وی یعنی دیار معنی زما والامعنا وی۔ نو ہفہ د غلامی قسیم  
دے۔ یعنی غیر جمع مذکر سالم الی یار المتکلم۔ او کہ چرے یار د متکلم نہ وی۔ نو بیا اسم منقوص  
دے۔

## د اسم متمکن اعراب بارہ کجے د سوال کولو طریقہ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ .

استاذ محترم ۱۔ السفهاء۔ داعامو کجے دے کہ خاصو کجے ؟

شاگرد:- عامو کجے دے۔

استاذ ۱۔ تاتہ ٹنک معلومہ شو ؟

شاگرد:- حُک چہ د خاصو پنحہ اقسام دی۔ او دا پہ ہفہ پنچو اقسامو کجے پہ یو کجے ہم نہ داخل

استاذ:- دا پہ اقسامو داعامو کجے منصرف دے کہ غیر منصرف ؟

شاگرد:- دامنصرف دے۔ حُک چہ پہ دے کجے د غیر منصرف پہ تھو اسبابو کجے یو سبب ہم

نشہ۔

استاذ:- داد منصرف کوم یوقسیم دے ؟ شاگرد:- دا جمع دہ۔

استاذ:- کومہ یوہ جمع دہ ؟ شاگرد:- دا جمع مکسرہ دہ۔

استاذ:- زہ وایم چہ دا جمع مؤنثا سالمہ دہ ؟

شاگرد:- نہ جی ! حُک چہ د جمع مؤنث سالم پہ آخر کجے لَف او تاء وی۔

استاذ:- جمع مذکر سالمہ دہ ؟

شاگرد:- نہ جی ! حُک چہ د ہفہ پہ آخر کجے وَاو ماقبل ترینہ مضموم وی یا یار ماقبل ترینہ

مکسور وی او تون مفتوحہ وی۔

استاذ:- بیا بہ جمع اقصی وی ؟

شاگرد:- نہ جی ! حُک چہ د ہفہ علامہ دادہ چہ پہ اولنو دوو حرفونر بانڈے فقہہ وی

او پہ دریم کھائے کجے الف علامہ د جمع اقصی وی۔

استاذ:- الحمد للہ! تاتہ خو د جمع اقسام یاد دی۔ خواوس راتہ او وایہ چہ د جمع

مکسرہ اعراب بالحکرت بہ وی یا کہ اعراب بالحرف بہ وی ؟

شاگرد:- اعراب بالحکرت بہ وی یعنی رفع ضمہ لفظی، نصب فقہہ لفظی او د جر کسرہ لفظی

سورہ بہ وی۔

## غیر منصرف

غیر منصرف ہر ہفہ اسم تہ والی۔ چہ ہفہ کینہ د غیر منصرف پہ نہہ اسبابو کینہ دوہ اسبابہ بیاموندے شی۔ یا پکینہ یوسبب چہ قائم مقام ددوہ سببوی موجود شی۔ نہہ اسبابہ منع صرف دادی:

عَدَلٌ، وَرَأَيْتُ، تَأْتِيكَ، مَعْرَنَ، عَجْمَه، جَمْع، تَرْكِيْبٌ، وَزَنَ فَعْلٌ، الْفَنُونُ زَائِدَانٌ.

عدل: عدل لثرون معنی دہ « اور پیدل » دے معنی طرف تہ محرم آفتدی اشارہ کہے دے دھو فی اللغة الصّرف) وبقال اسم معدولاً ای مَصْرُوفٌ (محرم آفتدی ص ۹۷ ج ۱)

پہ اصطلاح کینہ عدل ہر ہفہ اسم تہ والی۔ چہ خپل قانونی شکل نہ خارج شی غیر قانونی شکل تہ مستقل شی سرہ بقار د مادے او معنی کے اصلی نہ۔ یعنی اصلی حروف ہم باقی پاتے شی او معنی اصلی ہم باقی پاتے شی۔ لکہ ۱- عَمَرٌ - ثَلَاثٌ - مُثَلَّثٌ.

عدل پہ دوہ قسمہ دے، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔

۱: عدل تحقیقی؛ - دا ہفہ دے چہ دیو اسم پہ وجود اصلی باندے د غیر منصرف لوستلو نہ علاوہ شہ بل دلیل موجود وی۔ لکہ: ثَلَاثٌ، مُثَلَّثٌ۔ دا دَثَلَاثَةٌ، ثَلَاثَةٌ نہ وتلی دوہ، او پہ دوئی کینہ عدل تحقیقی دے۔ حکم چہ ددوئے پہ وجود اصلی باندے د غیر منصرف لوستلو نہ علاوہ موزن بل دلیل موجود دے او ہفہ دلیل ددوئی (ثَلَاثٌ، مُثَلَّثٌ) معنی کینہ تکرار دے۔ حکم چہ دے (ثَلَاثٌ، مُثَلَّثٌ) دواہ و معنی دے۔ نو دا معلومہ مشوہ چہ دا پہ اصل کینہ ثَلَاثَةٌ، ثَلَاثَةٌ و۔ بیاد ہفہ نہ خارج شولو، او ثَلَاثٌ، مُثَلَّثٌ ترینہ جوہ شولو۔

۲: عدل تقدیری؛ - دا ہفہ دے چہ د ہفہ پہ وجود اصلی باندے علاوہ د غیر منصرف، لوستلو نہ بل شہ دلیل موزن سرہ نہ وی۔ لکہ عَمَرٌ - زُفَرٌ - دا پہ کلام د عربو کینہ غیر منصرف موندے شوئی دی۔ حال دا چہ د غویان پہ نیز غیر منصرفا ہفہ وی۔ چہ پہ ہفہ کینہ دوہ اسبابہ وی یا یوسبب وی۔ چہ قائم مقام ددوہ سببوی وی۔ او اس پہ دوئی کینہ یوسبب موجود دے چہ ہفہ علم دے۔ دویم سبب پکینہ نیشتمہ۔ او اس کہ چہ دے دوئی لورہ دیو سبب پہ وجہ سرہ غیر منصرف لورہ۔ فریبیا خرد غویانو قاعدہ باطنیہ ی۔ نو غویانو د خپل قانون د حفاظت د پارہ پہ دوئی کینہ دویم سبب عدل فرض کرہ او دائے او ویل چہ عَمَرٌ او زُفَرٌ پہ اصل کینہ عامرٌ لو زافرٌ و۔ د خپل اصل نہ خارج شولو۔ او عَمَرٌ او زُفَرٌ ترینہ جوہ شولو۔ او اس دہ وی پہ وجود د باندے علاوہ د غیر منصرف لوستلو نہ موزن سرہ بل ہیخ دلیل نیشتمہ۔

۱- دو صف لغوی معنی دہ «بیافزل»۔

اصطلاحی تعریف :- کون الاسم د الّ علی ذاتہ مَبْهُمَةٌ مَاؤْخُرُذَقٍ مَعِ بَعْضِ صِفَاتِهَا۔  
وصف صرہف اسم تہ ویلے شی چہ ہفہ پہ مبہم ذات مع الوصف دلالت اوکری۔ لک:۔ اَحْمَرُ  
داہر ہر ہفہ ذات دلالت کوئی چہ ہفہ د پارہ حُمْرَةٌ ثابت وی۔

عَاجِمَہ :- عجمہ پہ لغت کینے «گونگا» کید لوتہ وائی۔ او پہ اصطلاح کینے عجمہ ہر  
ہفہ لفظ تہ وائی۔ چہ جررونکے ے غیر عربی وی۔ بیا چہ عجمہ د غیر منصرف د پارہ سبب  
چکری۔ ہفہ د پارہ دوہ شرطونہ دی۔

۱۔ علمیت فی العجمہ - یعنی پہ عجمی ژبہ کینے بہ عَلَمٌ وی۔ بیا پہ عجمی ژبہ کینے علم پہ دوہ  
قسمہ دے: (۱) حقیقی، (۲) حکمی۔

۱۔ حقیقی :- چہ یو لفظ پہ عجمی ژبہ کینے ہم عَلَمٌ وی اوکد چہ ہفہ عربی ژبہ تہ نقل شی نوبیا ہم  
پہ طور د عَلَمٌ استعمال شوے وی۔ لک: اِبْرَاهِيمُ۔

۲۔ حکمی :- چہ یو لفظ پہ عجمی ژبہ کینے عَلَمٌ خرونہ وی لیکن ہر کد چہ عربی ژبہ تہ  
منتقل شی نوبیا پہ طور د علمیت استعمال شوے وی۔ لک: قانون - او قانون پہ عجمی  
ژبہ کینے ہر کھرہ خیز تہ ویلے شی۔ لیکن ہر کد چہ داعربی ژبہ تہ منتقل شو۔ نوبیا دانہ لو  
علمیت اوگر حید لو دیو بنا لکستہ قرأت کوئی قاری صاحب د پارہ۔

۳۔ وجود احد الامرین - (۱) متحرک الاوسط بہ وی۔ مثال ۱۔ سَتَرَ۔ ۲۔ زَاوَدٌ عَلٰی الثَّلَاثَةِ  
مثال ۱۔ اِبْرَاهِيمُ۔

جمع :- دلتہ کینے مراد د جمع نہ جمع اقصیٰ دہ۔ د جمع اقصیٰ د جوہر لو قلعدہ دادہ چہ کوئی  
کینے نہ چہ اقصیٰ جوہر لے شی۔ د ہفہ پہ اولنو دوو حروفو باندے بہ فتحہ اولک لے شی۔ پہ دریم  
حائے کینے بہ الف علامہ د جمع اقصیٰ راور لے شی۔ ہفہ نہ پس بہ کوہو چہ یو حرف دے کہ دوہ  
حرفہ دی، او کہ درے حرفہ دی۔ کہ چرے یو حرف وی یعنی مشدّد حرف وی۔ نر پہ خپل حالہ بہ ے  
پرسیر دو۔ لک: ذَوَّآبٌ۔ کہ چرے دوہ حرفہ وی۔ نر اولنو حرف تہ بہ کسرہ و رکرو۔ او دریم بہ  
پہ خپل حال باندے پرسیر دو۔ لک: مِضْرَبٌ نَهْ مَصَارِبٌ۔ او کہ چرے درے حرفہ وی۔ نر اولنو  
حرف تہ بہ کسرہ و رکرو۔ او دریم حرفہ پہ پہ ساکنہ یا آسره بلکرو۔ او دریم بہ پہ خپل حال  
باندے پرسیر دو۔ لک: دِصْبَاحٌ۔ نہ مَصَابِيحٌ۔

تأنيث :- صرہف اسم تہ وائی چہ پہ ہفہ کینے علامہ د تانیث وی۔

تأنيث پہ دوہ قسمہ دے: (۱) لفظی - (۲) معنوی۔

لفظی :- دا ہفہ اسم دے۔ چہ پہ ہفہ کینے علامہ د تانیث لفظاً مبرجہ وی۔ لک: فَاطِمَةُ، خَدِجَةُ

معنوی :- داھفہ اسم دے چہ ہفے کینے علامہ دتا نیت لفظاً موجودہ نہ وی لکہ: زُنَيْبُ

ہیا تائیت لفظی پہ درہ قسمہ دے - ۱- بالتار ، ۲- بالالف .

تائیت لفظی بالتاء :- داھفہ دے چہ ددہ پہ آخر کینے تاء وی لکہ: طلحة .

تائیت لفظی بالالف :- داھفہ دے چہ ددہ پہ آخر کینے الف وی - خواہ کہ دا الف

مقصورہ وی لکہ: حُبْلَى - یا الف ممدودہ وی - لکہ حُمْرَاءُ .

معرفہ :- داھفہ دے چہ واضع ہفہ لہ دیومعین خیزد پارہ وضع کرے وی - د

معرفے پہ اوڑ اقسامو کینے دلتہ کینے علم مراد دے .

ترکیب :- دلتہ کینے مراد دترکیب نہ مرکب منع صرف دے .

د مرکب منع صرف تعریف :- داھفہ درہ اسمونہ دی - چہ واضع ہفہ لہ جدا

جدا معنود پارہ وضع کری وی - بیاروستہ راتلوزک خلقو ہفے لہ یوگرخوے وی - اودوم

اسم متضمن حرف لہ نہ وی لکہ: يَغْلِبُكَ ، مَعْدِيكَرَبِ ، حَضْرُ مَوْتِ .

وزن فعل :- داھفہ دے چہ لہ اسم پہ وزن د فعل وی - لکہ: أَحْمَدُ ، اشرف ،

أَكْبَرُ .

الف نون زائدتان :- ہفہ اسم دچہ دہے آخر کینے الف، نون زائدتان وی لکہ: عثمان، فحان.

## د غیر منصرف نہہ اسباب پہ ذہن کینے د کینولواسانہ طریقہ

د غیر منصرف نہہ اسباب پہ خلور حصر کینے تقسیم طہری ؟

نمبر ۱ :- پہ علم اروضف کینے پہ دوارو اسبابو کینے ہریر سبب تہ معین ویلے شی - یعنی دا

دوارہ داتہ اسباب دی - چہ فرور اسبابو سر سبب کرجی د پارہ د غیر منصرف - مدد او بقاوا

کرونکی دی - لکہ :- عجم ، ترکیب ، تائیت بالتاء د اسبب د غیر منصرف نشی کرجید خر پورے

چہ قلم وصرہ مدد نہ وی کرے .

نمبر ۲ :- باقی پھو اسبابو کینے نیم سبب یعنی جمع اقضی اونیم سبب تائیت (تائیت بالالف) دا

حانتہ (یعنی جمع اقضی حانتہ او تائیت بالالف حانتہ) قائم مقام د دور سبب دی - لکہ خنک

چہ دور و رہیں ہوت چہ پہ ظاہرہ خو یو دے - لیکن حقیقت کینے قائم مقام د دور رو پورے .

نمبر ۳ :- باقی پاتے شو پختہ نیم اسباب ، پہ دے کینے دو نیم ترینہ خارج کرے - یعنی عجم

ترکیب لو نیم تائیت (یعنی تائیت لفظی بالتاء او تائیت معنوی) پہ دے کینے بہ دویم سبب ہیشہ

د پارہ علموی - حکم پہ موہ کچہ علم د دور د غیر منصرف کرجیدو د پارہ مغرط دے - اودا



جزم : (درے خیزونوسرہ را حئی . را سکون سرہ ، ۱۲- حذف دلام سرہ ، ۱۳- اسقاطون  
اعرابی سرہ

### پہ اعتبار د اعراب سرہ فعل مضارع پہ خلوص قسمہ کے

نبر ۱:- مفرد صحیح (د نحویانو پہ نیز صحیح ہندے چہ د ہفہ د لام کلے پہ مقابلہ کئے حرف  
عت نہ وی) چہ مجرد وی د ضمیر بارزہ نہ . رفع نصب جزم  
ضمہ (لفظی) فقہ (لفظی) سکون

مثال :- هُوَ يَضْرِبُ لَنْ يَضْرِبَ لَمْ يَضْرِبْ .

نبر ۲:- مفرد معتل واوی و یائی چہ مجرد وی د ضمیر بارزہ نہ .

رفع نصب جزم  
ضمہ (تقدیری) فقہ (لفظی) حذف لام

مثال :- هُوَ يَدْعُو وَيُرْمِي لَنْ يَدْعُو وَيُرْمِي لَمْ يَدْعُو وَيُرْمِي

نبر ۳:- مفرد معتل الفی چہ مجرد وی د ضمیر بارزہ نہ .

رفع نصب جزم  
ضمہ (تقدیری) فقہ (تقدیری) حذف لام  
مثال :- هُوَ يَرْضَى لَنْ يَرْضَى لَمْ يَرْضَى

نبر ۴:- صحیح معتل چہ مشتمل وی پہ ضمیر بارزہ باندے .

رفع بہ لے پہ اثبات د وزن اعرابی سرہ وی - نصب او جزم بہ لے پہ اسقاط د

وزن اعرابی سرہ وی . مثال :- هُمَا يَضْرِبَانِ وَيَدْعُوَانِ وَيَرْضَيَانِ : لَنْ يَضْرِبَا وَيَدْعُوا  
وَيَرْضَيَا .

فائل ۵:- اولی درے قسمونہ (یعنی مفرد صحیح) معتل واوی و یائی - معتل الفی مجرد  
از ضمیر بارزہ) د فعل مضارع پنہ صیغہ د پارہ دی . واحد مذکر غائب ، واحد مؤنث غائب  
واحد مذکر مخاطب ، واحد متکلم - جمع متکلم .

خلوص قسم (یعنی صحیح یا معتل مشتمل بر ضمیر بارزہ) پہ باقی اوو صیغو (یعنی  
خلوص تثنیہ - دو جمع مذکر ، یو واحد مؤنث حاضر) کئے را حئی (علاوہ د جمع مؤنث د دوو صیغو  
نہ حکم چہ ہفہ مبنی دی) .

## د فعل مضارع د اعراب آسان حل

د فعل مضارع تو لے خوار اس صیغے دی۔ پہ دے کئے دوہ ترینہ او باسہ (یعنی جمع مؤنث غائب ارجع مؤنث حاضر) یا قی دولسو صیغوں کئے پنچہ صیغے داخل ( واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم۔ اوس کہ چرے دا پنچہ د فعل صحیح وی نو د دوی اعراب بہ د اولنی قسیم نہ وی یعنی رفع بہ لے ضمی سرہ وی نصب بہ لے فتح سرہ وی۔ او جزم بہ لے سکون سرہ وی۔ د درپوارو مثالونہ بالترتیب دادی :-  
هُوَ يَضْرِبُ - لَنْ يَضْرِبَ - لَمْ يَضْرِبْ - او کہ چرے دا پنچہ صیغے د معتل واوی اویائی وی نو بیا د دوی اعراب رفع بہ لے ضمّ تقدیری سرہ وی، او نصب بہ لے فتح لفظی سرہ وی او جزم بہ لے پہ حذف لام سرہ وی - مثالونہ لے پہ ترتیب سرہ دادی :-

هُوَ يَدْعُو هُوَ يَرْمِي - لَنْ يَدْعُو لَنْ يَرْمِي - لَمْ يَدْعُ لَمْ يَرْمِ . او کہ چرے دا پنچہ صیغے د معتل الفی وی نو بیا بہ لے اعراب پہ دانشان وی۔ رفع بہ لے ضمّ تقدیری سرہ وی لو نصب بہ لے پہ فتح تقدیری سرہ وی او جزم بہ لے پہ حذف لام سرہ وی - مثالونہ لے دادی :-  
هُوَ يَرْضَى - لَنْ يَرْضَى - لَمْ يَرْضَ .

تنبیہ :- ناقص واوی اویائی او د لفیف مضارع مجہول بہ ہم معتل الفی کئے داخل وی۔ باقی اورو صیغے خواہ کہ صحیح وی یا کہ معتل واوی اویائی وی، او یا کہ معتل الفی وی۔ د دے تلو اعراب یو دے۔ رفع بہ لے پہ اثبات د نون اعرابی سرہ وی او نصب او جزم بہ لے پہ اسقاط د نون اعرابی سرہ وی۔

|               |                   |               |                |                |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| د رفع مثال :- | هُمَا يَضْرِبَانِ | يَدْعُوَانِ   | يَرْمِيَانِ    | يَرْضَيَانِ    |
| د نصب مثال :- | لَنْ يَضْرِبَا    | لَنْ يَدْعُوا | لَنْ يَرْمِيَا | لَنْ يَرْضَيَا |
| د جزم مثال :- | لَمْ يَضْرِبَا    | لَمْ يَدْعُوا | لَمْ يَرْمِيَا |                |

## اجزاء

وَيَاكَ نَعْبُدُ وَوَيْلًا لَكَ نَسْتَعِينُ

استاذ :- نَعْبُدُ د اپہ (جمع مؤنث غائب او حاضر) کئے دی او کہ پہ دولسو کئے دی ؟  
شاگرد :- پہ دولسو کئے دی (دولسونہ مراد د جمع مؤنث غائب او حاضر نہ علاوہ دولسو صیغے کی)  
استاذ :- پنچو ( واحد مذکر و مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم، جمع متکلم) کئے دی؟ یا کہ

او کو (دغہ پنھو او دو و صیفونہ علاوہ) کہنے دی ؟

شاہکرد :- پنھو کہنے دی۔ حکرچہ داد جمع متکلم صیفہ دہ۔

استاذ :- ددے اعراب بہ خہ وی ؟

شاہکرد :- ددے اعراب بہ دامتان وی ؛ رفع بہ کے ضیح (لفظی سرہ وی ، او نصب بہ کے فتحی

لفظی سرہ وی ، او جزم بہ کے سکون سرہ وی ، حکرچہ داد جمع متکلم صیفہ

د فعل مضارع د اعراب پہ اتسامو کہنے پہ رومی قسم کہنے داخلہ دہ۔ یعنی مفردہ صحیح

مجردہ او ضمیر بارہ۔

(مرفوعات ، منصوبات ، مجرورات)

### منصوبات

### مرفوعات

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ۱۔ مفعول بہ ۔              | ۱۔ مبتداء ۔                  |
| ۲۔ مفعول لہ ،              | ۲۔ خبر ۔                     |
| ۳۔ مفعول منہ ۔             | ۳۔ قاعل ۔                    |
| ۴۔ مفعول مطلق ۔            | ۴۔ نائب فاعل ۔               |
| ۵۔ مفعول فیہا ۔            | ۵۔ د حروف مشبہ بالفعل خبر ۔  |
| ۶۔ حال ۔                   | ۶۔ خبر د لائے نفی جنس ۔      |
| ۷۔ تمیز                    | ۷۔ اسم د ماوآ مشبہتان بلیس ۔ |
| ۸۔ اسم د حروف مشبہ بالفعل  | ۸۔ اسم د افعال ناقصہ         |
| ۹۔ خبر د ماوآ مشبہتان بلیس | ۹۔ اسم د افعال مقاربہ        |
| ۱۰۔ خبر د افعال مقاربہ     |                              |
| ۱۱۔ خبر د افعال ناقصہ      |                              |
| ۱۲۔ اسم د لائے نفی جنس     |                              |
| ۱۳۔ مستثنیٰ ۔              |                              |

مجرورات :- ۱، مدخول بحرف الجبر - ، ۲، - مضاف الیہ ، ۳، مجرور بحرف جوار ۔



## بحث د مستثنیٰ

مستثنیٰ ہر ہفہ اسم تہ والیا چہ د الیٰ یاد آخواتق د ہفہ نہ پس واقع شی۔ و  
پلہ ددے چہ دلالت اوکری۔ پر دے خیر باندے چہ دکوم حکم نسبت د الیٰ ما قبل نہ  
شوعے دے۔ ددغہ حکم نسبت ما بعد د الیٰ تہ نہ دے شوے۔ عَیْرُ و یَسْمُوْیُ و سَوَا  
و حَاشَا و خَلَا و مَا خَلَا و مَاعَدَا، و لَیْسَ و لَا یَكُوْنُ و مَا خَلَا۔

## د مستثنیٰ اقسام

مستثنیٰ پہ دوہ قسمہ دہ : ۱- متصلہ ، ۲- منقطعہ  
متصلہ :- داہفہ دہ چہ د مستثنیٰ د جنس د مستثنیٰ منہ نہ وی۔ لکہ: جَانِی الْقَوْمِ اِلَّا زَيْدًا  
منقطعہ :- داہفہ دہ چہ مستثنیٰ د جنس د مستثنیٰ منہ نہ نہ وی لکہ: جَانِی الْقَوْمِ اِلَّا حِمَارًا

## د مستثنیٰ اعراب

اعراب مستثنیٰ پہ خلور قسمہ دے : (۱) نصب (۲) نصب و بدل ، (۳) بحب العوامل  
(۴) خبر ۔

نصب :- مستثنیٰ پہ پہ پختو خایونو کبہ منصوبہ وی ۔

۱- چہ مستثنیٰ متصلہ وی ۔ د الیٰ نہ پس وی ، او پہ کلام موجب کبہ وی ۔

مثال ۱- جَانِی الْقَوْمِ اِلَّا زَيْدًا ۔

۲- چہ مستثنیٰ منقطعہ وی ۔ مثال :- جَانِی الْقَوْمِ اِلَّا حِمَارًا ۔

فائلکہ :- کلام پہ دوہ قسمہ دے ، (۱) موجب ، (۲) غیر موجب ۔

موجب :- داہفہ کلام دے چہ پہ دہ کبہ حرف نفی، نفی او استفہام نہ وی ۔

غیر موجب :- داہفہ کلام دے چہ پہ دہ کبہ حرف نفی، نفی او استفہام وی ۔

۳ :- چہ مستثنیٰ وی ۔ پس ذ الیٰ نہ وی ، پہ کلام غیر موجب کبہ وی ۔ او چہ مستثنیٰ منہ نہ

مقدمہ وی ۔ مثال :- مَا جَانِی اِلَّا زَيْدًا اَحَدًا ۔

۴ :- چہ مستثنیٰ وی ۔ و خَلَا و عَدَا نہ بعد واقع وی ۔ پہ نیز د اکثر و علاو بہ دا منصوب

و ۔ مثال :- جَانِی الْقَوْمِ خَلَا زَيْدًا ۔

۵ :- چہ مستثنیٰ د مَا خَلَا ، مَاعَدَا ، لَیْسَ ، لَوْ لَا یَكُوْنُ نہ پس واقع وی ۔

مثال :- جَانِی الْقَوْمِ مَا خَلَا زَيْدًا ۔

نصب و بدل :- چہ مستثنیٰ وی او الیٰ نہ پس وی ۔ پہ کلام غیر موجب کبہ او مستثنیٰ

منہ مذکور وی نوبیاد دہ و چہ پکبہ جائز دی ۔ نصب لو سئل ہم جائز دی لو بدل جو رول ہم

جائز دی۔ لکہ: ماجاءنی احدًا إِلَّا زَيْدًا وَ إِلَّا زَيْدًا .

بحسب عوامل :- چہ مستثنیٰ وی، الا نہ بعد وی، کلام غیر موجب کئے وی اور مستثنیٰ منہ محذوفہ وی۔ نو اعراب د مستثنیٰ بہ بحسب العوامل وی۔ یعنی کہ چرے عامل رافع وی نور منوع بہ وی۔ کہ عامل ناصب و۔ نو منصوبہ بہ وی۔ او کہ چرے عامل مجرور و نو مجرور بہ وی۔ لکہ: ماجاءنی الا زَيْدًا - وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا - وَمَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ . دے تہ مستثنیٰ مفعولہ وائی .

فائدہ :- الا نہ پس چہ کلا جار مجرور راشی نو ہفہ اکثر مستثنیٰ مفعولہ وی .

جَرُّ :- چہ مستثنیٰ وی او غَيْرٌ ، سِوَا اَوْ سِوَاءَ نہ پس وی نو مستثنیٰ بہ مجرور وی .

چہ مستثنیٰ د حاشانہ پس واقع وی نو پرہ نیز د اکثر و علماء باندے بہ مستثنیٰ مجرور وی نو پرہ نیز د بعضو باندے بہ منصوبہ وی . لکہ: جاءنی القومُ غَيْرُ زَيْدٍ وَسِوَى زَيْدٍ وَ حَاشَا زَيْدٍ

### دَغَيْرُ اعراب

چہ کرم اعراب د مستثنیٰ بہ الا سرہ دے ہم ہفہ اعراب بہ د لفظ غَيْرٌ ہم وی .

یعنی پہ کرمو صورتونو کئے چہ مستثنیٰ منصوبہ وی۔ کہ چرے پہ دغہ صورتونو کئے پہ حُلْکُ دِ الْاَ باندے لفظ دغیر وی۔ نو ہفہ بہ ہم منصوب وی . لکہ: جاءنی القومُ غَيْرُ زَيْدٍ ط لو پر

کرم صورت کئے چہ بہ مستثنیٰ باندے نصب او بدل دواہہ جائز وی۔ پہ دغہ صورت کئے چرہ پہ حُلْکُ دِ الْا باندے لفظ دغیر مستعمل وی۔ نو پہ ہفہ باندے بہ ہم نصب او بدل دواہہ جائز وی . لکہ: ماجاءنی اَحَدًا غَيْرُ زَيْدٍ - وَغَيْرُ زَيْدٍ . او پر کومو صورتونو کئے چہ مستثنیٰ معرب علی

حسب العوامل وی۔ کہ چرے پہ دغہ صورتونو کئے پہ حُلْکُ دِ الْا باندے لفظ دغیر استعمال وی نو دہفہ اعراب بہ ہم علی حسب العوامل وی۔ یعنی کہ چرے عامل رافع وی۔ نو دابہ مرفوعہ وی او کہ چرے عامل ناصب وی نو دابہ ہم منصوبہ وی۔ او کہ عامل جارہ و نو دابہ مجرورہ و لکہ: ماجاءنی غَيْرُ زَيْدٍ - وَمَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ - وَمَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ .

فائدہ :- لفظ دغیر دپارہ دصفت وضع کرے مشوع دے۔ لیکن کلا استثناء دپارہ

ہم استمالین ی۔ لکہ جاردنی القوم غیر اصحابک۔ دغہ نشان وضع دِ الْا خو استثناء دپارہ دہ .

لیکن اکثر اوقات دصفت دپارہ ہم استمالین ی۔ او دغہ وقت کئے دابہ معنی دغیر کئے و .

لکہ حُکْمُ چہ: لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ کئے دی . دلہتہ کئے اِلَّا دصفت دپارہ د

پہ معنی ہ غیر سرہ .

## بحث د توابعو

**تعریف د تابع :** - تابع ہر ہفہ دریم لفظ تہ ویلے شی چہ دخپل ماقبل لفظ سرہ پہ اعراب کینے موافق وی (یعنی اعراب ددوارو یروی) ارجعت ے ہم موافق وی۔ پہ جہت کینے د موافقت مطلب دادے چہ کہ چرے مطبوع پہ وجہ د فاعلیت سرہ مرفوع وی نو تابع بہ ہم پہ وجہ د فاعلیت سرہ مرفوع وی۔ کہ چرے متبوع پہ وجہ د مفعولیت سرہ منصوب وو۔ نو تابع بہ ہم پہ دفعہ وجہ سرہ منصوب وی۔ او کہ چرے متبوع پہ وجہ د مضاف السره مجرور وو۔ نو تابع بہ ہم پہ وجہ د مضاف الیہ سرہ مجرور وی۔

مثال د تابع فاعل :- جاء فی زَیْدٍ نِ الْعَالَمِ .

مثال د تابع مفعول :- رَأَيْتُ زَیْدَ نِ الْعَالَمِ .

مثال د تابع مضاف الیہ :- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .

## د تابع اقسام

تابع پہ پنحہ قسمہ دے . (۱) نعت ، (۲) عطف بالحرف ، (۳) بدل ، (۴) تالیف

(۵) عطف بیان .

**نعت** - نعت صفت د ہر ہفہ تابع تہ وائی چہ پہ یوہ دا سے معنی بانڈے دلالت اوکریا چہ ہفہ معنی پہ متبوع کینے یا د متبوع پہ متعلق کینے موجودہ شی۔ تابع تہ نعت یا صفت وائی۔ او متبوع تہ موصوف یا منعموت وائی۔ لکہ :- جَلَوْنِ رَجُلٍ عَالِمٌ . د دے زیات وضاحت پہ علاماتو د صفت موصوف کینے تیر شوبہ دے۔

**عطف بالحرف** :- دا ہر ہفہ تابع تہ وائی چہ دحروف عاطفہ نہ پس ذکر وی، او خپل متبوع سرہ مقصود بالنسبت وی۔ یعنی چہ دکوم حکم نسبت متبوع طرف تہ شوبہ وی نو ہفہ نہ مقصود تابع او متبوع دوارہ وی۔ (خوش شرط دادے چہ عطف د مفرد پہ مفرد وی) لکہ :- ضَرَبَ زَیْدٌ وَعُمَرُو .

**حروف عاطفہ لحن دی :-** یو شاعر پہ شعر کینے ہفہ دا سے بیان کھی دی :

وہ حروف عاطفہ مشہور اند یعنی واو فار

ثم، حتی، او، انا، أم، بل، کمن و لا

د دے متبوع تہ معطوف علیہ او تابع تہ ے معطوف وائی۔ د دے زیات وضاحت

پہ بیان د معطوف معطوف علیہ کینے تیر شوبہ دے۔

**بدل :-** بدل پہ نعت کینے عوض تہ وائی۔ او پہ اصطلاح کینے ہر ہفہ تابع تہ وائی چہ ہفہ

مقصود بالنسبت وی۔ یعنی چہ دکوم حکم نسبت چہ متبوع تہ شوعہ دے۔ ہفے نہ مقصود۔  
متبوع نہ وی۔ بلکہ تابع مقصود وی۔ متبوع صرف د تمیز او توطیئے پہ وول ذکر شوعہ وی۔  
لکہ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ۔ متبوع تہ مبدل منہ او تابع تہ بدل وائی۔

### د بدل اقسام

بدل پہ خلور قسمہ دے:

- ۱۔ بدل الكل :- چہ د بدل او مبدل منہ مصداق یو وی۔ لکہ: جادف زَيْدٌ أَخَوَاكَ
- ۲۔ بدل البعض :- چہ بدل د مبدل منہ د مصداق جزوی وی۔ لکہ: ضَرَبَ زَيْدٌ رَأْسَهُ۔
- ۳۔ بدل الاشتمال :- چہ بدل د مبدل منہ سرع متعلق وی۔ لکہ :- سَلِبَ زَيْدٌ ثَوْبَهُ۔
- ۴۔ بدل الغلط :- چہ د غلطی نہ پس صحیح لفظ سرع ذکر شوعہ وی۔ لکہ: یوسرے پہ لارہ  
بانڈے تیریدو۔ دَخَرُ پہ روستو درو پسنو بانڈے لے نقل پر یوتو۔ او د تیاری پہ وچرہ  
لے ہفے پیرے او گنہلو۔ او بیائے وویل: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ۔ لیکن کلے چہ پہ مخکیتو  
پبو بانڈے لے نظر اولکیدو۔ نوبیائے او ویل چہ مانہ غلطی شوعہ دے۔ نوے وویل: مَرَرْتُ  
بِحِمَارٍ۔ اے مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حِمَارٍ

### علامات د بدل مبدل منہ

کلہ چہ دلقی نہ بعد نوم ذکرشی فوعام طور بانڈے دغہ بدل مبدل منہ گرجی،  
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الرَّاهِدُ ابوالْحَسَنِ أَحْمَدُ۔

۲۔ چہ مخکینے دیر خیز تعداد د عدد پہ ذریعے سرع بیان شی او بیاروستو د ہفے تفصیل  
وی۔ نوپہ تفصیل کجے ہریو بدل ہم گرجید لے شی ما قبل د پارہ۔ لکہ: مَائَةٌ عَامِلٍ لَفْظِيَّةٌ وَ  
مَعْنَوِيَّةٌ۔

۳۔ کلہ چہ اسم اشارے نہ بعد الف لام والا اسم ذکر وی۔ نوپہ ترکیب کجے د صفت پہ سنا  
بدل او عطف بیان ہم گرجید لے شی۔ لکہ: رَبِّ يَتَسَّرُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَيَّ۔

عطف بیان :- ہر ہفے تابع تہ وائی۔ چہ صفت خو نہ وی۔ لیکن خیل متبوع بنہ واضحہ  
او رویشانہ کوی۔ لکہ: اَقْسَمَ بِاللَّهِ اَبْرُهَيْمُ عُمَرُ۔ د دے متبوع تہ مبین او تابع تہ  
عطف بیان وائی۔

د عطف بیان علامات :- ہر کلہ چہ نوم ارکنیت دوارہ ذکر وی۔ نوچہ کوم خیز  
زیات مشہور وی۔ ہفے لہ عطف بیان لو کجڑہ او چہ کوم غیر مشہور وی ہفے لہ مبین ارکڑو



**مفرد :-** ہفہ لفظ دے چہ یواہے پہ یوہ معنی باندے دلالت اوکری۔ لک: رَجُلٌ۔ دے تہ کلمہ ہم وائی۔ کلمہ پہ درے قسمہ دہ۔ اسم ، فعل ، حرف ۔

**اسم :-** ہفہ کلمہ دہ۔ چہ پہ خپلہ معنی بنود لو کینے بلے کلمے تہ محتاجہ نہ وی او تعلق نہ نساقی یو د ازمئہ ثلاثہ سرہ۔ لک: زَيْدٌ۔

**علامات د اسم :-** د اسم د پیژند لو د پارہ خو علامات دی۔ چہ ہفہ شاعر پہ شعر کینے ذکر کوی دی۔ ع

لام و تون حرف جر مسند الیہ منسوب دان :- پس مصغر تشبیہ مجموع مضاف را بخوان  
نذار و تائی مخرکہ موصوف علامت اسم دان :- نظم کردم انچہ دیدم در کتاب نجویان

**فعل :-** فعل ہفہ کلمہ دہ چہ پہ خپلہ معنی بنود لو کینے بلے کلمے تہ محتاج نہ وی او تعلق نہ وی یو د ازمئہ ثلاثہ سرہ لک: ضَرَبَ۔

**علامات د فعل :-** د فعل علامات یو شاعر پہ خپلہ شعر کینے پہ داستان بیان کوی دی۔

ع سین ، سوف ، جازمہ ، قد ، تائی ساکنہ ، مسند و ہی ، امر دان

اتصال تا فعلت ، نون تا کیدہ و خفیضہ مرفوع بارز رافصل بخوان

**حرف :-** ہفہ کلمہ دہ چہ پہ خپلہ معنی بنود لو کینے بلے کلمے تہ محتاجہ وی او تعلق نہ وی د ازمئہ ثلاثہ سرہ۔ لک: مِنْ - إِلَى - عَلَى۔

**د حرف علامات :-** چہ پہ کومہ کلمہ باندے د اسم او فعل ہیج علامت نہ وی

ہمد اعدم علامت د حرف علامت دے اے عزیزہ !

**مرکب :-** ہفہ لفظ دے چہ حاصل وی د دو و کلمونہ یا زیات د دو و کلمونہ۔

یعنی چہ ہفہ کینے جزو د لفظ پہ جزو د معنی باندے دلالت اوکری۔ لک: زَيْدٌ قَائِمٌ۔

مرکب پہ دوہ قسمہ دے۔ ۱۔ مرکب تام ( مفید ) ۲۔ مرکب ناقص ( غیر مفید )

**مرکب تام ( مفید )** مفید مرکب ہفہ مرکب دے۔ چہ متکلم یوہ خبرہ اوکری او خاموش شی۔ نو اوریدونکی تہ د خبر یا طلب فائدہ حاصلہ شی۔ لک: زَيْدٌ عَالِمٌ - ضَرَبَ زَيْدٌ۔

مفید مرکب تہ جملہ او کلام ہم وائی۔

**مرکب مفید یہ دوہ قسمہ دے :-** (۱) جملہ خبریہ ، (۲) جملہ انشائیہ ۔

**جملہ خبریہ :-** جملہ خبریہ ہفہ جملہ دہ چہ د ہفہ د ویونکی پہ صدق یا کذب

سرہ صفت کینی۔ لک: زَيْدٌ عَالِمٌ۔ یعنی زید عالم دے جملہ خبریہ پہ دوہ قسمہ دہ۔

جملہ فعلیہ ۔ جملہ اسمیہ ۔

جملہ فعلیہ :- ہفہ جملہ وہ چہ دہنے پر مبنی جز فعل وی او دویم جز اسم وی۔ پر مبنی جز تہ فعل او مسند وائی او دویم جز تہ مسند الیہ او فاعل وائی۔ لکہ ضرب زید۔

جملہ اسمیہ :- ہفہ جملہ وہ چہ پر مبنی جز تہ اسم وی او دویم جز تہ خبر کہ اسم وی یا کہ فعل وی۔ لکہ :- زیدٌ عالیہ ۔

دوہ پر مبنی جز مسند الیہ وی او ہفہ تہ مبتدا وائی، او دویم جز تہ مسند وی او ہفہ تہ خبر ہم وائی۔

فَاعِلٌ :- مسند حکم وی او مسند الیہ ہفہ وی چہ ہفہ باندے حکم اول لکے ہاں اسم مسند او مسند الیہ دواہ وی۔ او فعل صرف مسند وی نہ چہ مسند الیہ۔ او حرف تہ مسند وی او نہ مسند الیہ۔

جملہ انشائیہ :- انشائیہ ہفہ جملہ وہ۔ چہ دہنے دو بیونکی پہ صدق یا لذیضہ صفت نشی کید۔

د انشائیہ جملہ مشہور اقسام :- د انشائیہ جملہ مشہور قسمونہ لس دی چہ ہفہ لہہ پر شاعر پہ شعر کجہ داسے بیان کری دی :-

تمنی ترحی عقود ای اغی      بیہ ندا وقیم، عرض و امر ونہی  
استفہام و تعجب بخوان ای جوان :-      این وہ قسم انشاء است بخوبی بیان

مرکب ناقص (غیر مفید) :- مرکب (غیر مفید) ہفہ دے چہ کہ متکلم یو خبرہ او کری او خاموش شی نو او رسیدونکی تہ خبر یا طلب حاصل نہ شی لکہ : عَبْدُ اللَّهِ - أَحَدٌ عَشَرَ د مرکب ناقص خرقہ اقسام دی۔ ۱۱، مرکب اضافی، ۱۲، مرکب بنائی، ۱۳، مرکب منع صرف

(۴) مرکب توصیفی، (۵) مرکب صوتی۔

۱- مرکب اضافی :- ہفہ مرکب دے۔ چہ د مضاف مضاف الیہ نہ جوہر شی لکہ : فُلَانٌ زَيْدٌ

۲- مرکب بنائی :- چہ واضع دوہ اسمونہ جدا جدا معنود پارہ وضع کری وی اور مستوح خلقو بیا ہفہ لہہ یو اسم گر جو لے وی۔ او دویم اسم متضمن حرف لہہ وی۔ لکہ : أَخَذَ عَشْرًا پہ اصل کجہ أَخَذَ وَعَشْرًا ، إِثْنَا عَشْرًا۔

۳- مرکب منع صرف :- (مزجی) :- ہفہ مرکب دے چہ دوہ اسمونہ نہ جوہر شوے وی۔ داسے دوہ اسمونہ چہ واضع ہفہ لہہ جدا جدا معنود پارہ وضع کری وی۔ لیکن روستو خلقر ہفہ دواہ اسمونہ یو گر جو لے وی او دویم اسم متضمن نہ وی حرف لہہ۔ چنو دہفہ

دواہر و اسموں پر مینح کئے ربط والا حہ حرف نہ وی، لک: بَعْلَبُکْ - معد یکر ب .  
۴- مرکب توصیفی :- ہفہ مرکب دے چہ د صفت موصوف نہ جوہ شی لک: الصَّرْفُ  
الکامل

۵- مرکب صوتی :- ہفہ مرکب دے چہ د اسم د آواز نہ جوہ شی لک: سیبویہ .

### فور مرکبات

۱- مرکب بیانی :- ہفہ مرکب دے چہ مبین او عطف بیان نہ جوہ شی لک: اَتَمَّ بِاللَّهِ اَبْرَحُفْصِ  
عَمْرُو .

۱۲- مرکب عطفی: ہفہ مرکب دے چہ د معطوف معطوف علیہ بہ جوہ شی . خرپہ شرط چہ عطف  
د مفرد پہ مفرد باندہ وی، لک: جَاءَ نِي زَيْدٌ وَعَمْرُوٌ وَقَاسِمٌ .

۳- مرکب حالی :- ہفہ مرکب دے چہ د حال او ذوالحال نہ جوہ شی، لک: جَاءَ نِي زَيْدٌ رَاكِبًا .

۴- مرکب تاکیدی :- ہفہ مرکب دے چہ د مرکب او تاکیدی نہ جوہ شی، لک: جَاءَ نِي طَلَّابٌ كَلْمُهُ .

۵- مرکب بدلی :- ہفہ مرکب دے چہ د بدل مبدل منہ نہ جوہ شی، لک: سِيدَ الْاَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ الْمِصْطَفَى .

۶- مرکب تمیزی :- ہفہ مرکب دے چہ د تمیز او تمیزی نہ جوہ شی . مرکب تمیزی پہ دوہ قسمہ دے .

۱،) مرکب تمیزی عددی ، (۲) مرکب تمیزی غیر عددی .

۱:- مرکب تمیزی عددی :- ہفہ مرکب دے چہ پہ ہفہ کئے تمیز عدد وی، لک: اَحَدٌ

عَشْرٌ دِرْهَمًا - بیا مرکب تمیزی عددی پہ دوہ قسمہ دے ۱۸،) مرکب بنائی ، (۲) مرکب غیر بنائی .

مرکب تمیزی عددی بنائی :- ہفہ مرکب دے چہ پہ ہفہ کئے ممیز احد عشر نہ تَرْتِسَعَةٌ

عشر پہرے عدد وی، لک: اَحَدًا عَشْرًا دِرْهَمًا .

مرکب تمیزی عددی غیر بنائی :- دا ہفہ مرکب دے - چہ پہ ہفہ کئے ممیز د اَحَدًا عَشْرًا

تِسْعَةً عَشْرًا نہ علاوہ بلکہ عدد وی، لک: اَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

۱۲ مرکب تمیزی غیر عددی :- ہفہ مرکب دے چہ ہفہ کئے ممیز عدد نہ وی بلکہ بدل

حہ لفظ وی، لک: عِنْدِي رِطْلٌ زَيْتًا - عِنْدِي قَفِيزَانٌ بُرًّا

### کلمات د عربیہ دوہ قسمہ دی

۱- معرب - ۳- مبنی .

مُعْرَبٌ :- دا ہفہ کلمات دی چہ آخرے بدلینی پہ بدلید لو د عواموسرہ، لک: جَاءَ نِي زَيْدٌ

رَأَيْتُ زَيْدًا - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ -

مبنی ۱۔ دا ہف دے چہ آخر ددہ نہ ہد لیبزی پہ بد لید لو دعواملوسرہ . لک۔ جَاءَ لِي  
هُوَ لَاءٌ - رَأَيْتُ هُوَ لَاءٌ - مَرَرْتُ بِهِ هُوَ لَاءٌ

پہ دے وجہ یوشاعر ویلی دی :

مبنی آن باشد کہ ماند برقرار . ۱۔ معرب ان باشد کہ گردد بار بار

پہ دنیا کبے معرب دوہ خیزوند واقع کیزی .

۱۔ اسم متمکن چہ ترکیب کبے واقع وی . ۲۔ فعل مضارع چہ نون جمع مؤنث او نون تاکیدی

نہ خالی وی . مبنی پہ دوہ دولہ دے ۱۔ مبنی الاصل ، ۲۔ مشابہ بالاصل .

۳۔ مبنی الاصل درے خیزوند دی : فعل ماضی - امر حاضر معلوم ، قول حروف .

(اسم متمکن چہ ترکیب کبے واقع نہ وی او د فعل مضارع ہفہ صیفیہ چہ نون جمع مؤنث او نون

تأکید باندے مشکل وی ہفہ مبنی دی)

۴۔ مشابہ بالاصل (دے دویم نوم اسم غیر متمکن دے) او ہفہ پہ ائہ قِسْمہ دے :

## مضمرات

داد مضمر جمع دہ او مضمر ضمیر تہ وائی او د ضمیر تعریف دادے چہ د ہفہ پہ

ذریعے سرہ د متکلم ، مخاطب او غائب حال بیان کرے شی . د ضمیر مکمل وضاحت د فعلیہ جملے  
پہ حل کبے تیر شوے دے .

اسم اشارہ : ہر ہفہ اسم تہ وائی چہ ہفہ لڑا واضح دیو معین (محسوس او کال الحسن)

خیز طرف تہ اشارے کولو د پارہ وضع کرے وی . کوم خائے کبے چہ اسم اشارہ وی . ہلتہ کبے د  
خلوہ خیزونو پیٹرنندل ضروری دی .

۱۔ مشیر (اشارہ کوونکے) . نمبر ۲ : مشار الیہ (چاہتہ اشارہ کیدلے شی) نمبر ۳ : اسم

اشارہ (کوم اسم سرہ چہ انفارہ او کپہ شی) . نمبر ۴ : مخاطب (چاہتہ اشارے او کرے شی)

مثال ۱۔ د خالد کتاب ورک شو . او د طاہر پہ ہفہ کتاب باندے نظر پریوتلو . او ہفہ خالد

تہ د کتاب طرف تہ اشارہ او کرلے او ویلے ویلے : هَذَا الْكِتَابُ ، نو کلاہر مشیر دے . کتاب

مشار الیہ دے . هَذَا اسم اشارہ دہ او خالد مخاطب دے .

اسم اشارہ پہ درے کسمہ دہ . نمبر ۱ : قریب (ذَا) نمبر ۲ : متوسط (ذالک)

نمبر ۳ : بعید (ذالک) . قِلَّةُ الالفاظ تدلُّ عَلَى قِلَّةِ المعاني . وکثرة الالفاظ تدلُّ عَلَى كَثْرَةِ المعاني

لهذا یہ «ذا» کیے الفاظ کم دی۔ فرقت ہم پکینے کم دے۔ یعنی یہ دے سے اشارہ قریباً تہ  
 کیدے شی۔ وپاندے چہ شرمکہ الفاظ زیاتین دی۔ نو دھوئے قوت ہم زیاتین ی۔  
 لهذا «ذالک» اسم اشارہ بہ متوسط دپارہ وی۔ او ذالک اسم اشارہ بہ بعید  
 دپارہ وی۔

سوال :- قرآن مجید کیے ذالک الکتب۔ دا اسم اشارہ بعید دپارہ دہ۔ حال داچہ کتاب  
 (قرآن پاک) خو قریب دے ۹  
 جواب اے :- حاصل دجواب دادے۔ چہ داہفہ کتاب تہ اشارہ دہ۔ کوم کتاب چہ لہج مخفوط  
 کیے موجود دے۔

جواب اے :- بعد د مشار الیہ یہ دوہ قسمہ دے۔ ۱۔ بعد حسی، ۲۔ بعد ربی،  
 دلہ کیے کتاب اللہ کیے اگرچہ بعد حسی خورشہ۔ لیکن بعد ربی پکینے نشہ دے  
 حکہ چہ قرانکیم د معارفو، اسرارو اودحقائقو اودقائقو دا سے یوسمندردے چہ ددے  
 سمندر دروازے تہ رسید لو دپارہ لشل اشہ کالہ لکی۔ بیا وپاندے چہ دغہ دروازہ پراستلے  
 شی اوددغہ حقائقو تہ یوہ قطرہ حاصل لو دپارہ بہ خومرہ وخت لکی۔ پہ دے بانڈے اللہ  
 تعالیٰ نینہ پوہیز ی۔ ددے مثال داہفہ اوگنہ۔

چہ زمونین استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت  
 برکاتہم العالیہ۔ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازمی دامت  
 برکاتہم العالیہ تشریف فرماوی۔ اومونین دھوئے پہ خدمت کیے حاضر یو۔ نو دوی لکر چہ  
 حاساً قریب دی لیکن د عظمت اومرتبہ پہ لحاظ سرہ انتہائی بعید دی۔ مونین خو دھوئے د  
 پنوخو رسرہ ہم برابر نہ یو

فائل ۱ :- کل د اسم اشارے پہ شروع کیے ہا، د تنبیہ راوپلے شی د عاقل مخاطب د خبرداری دپا  
 د اسم اشارے پہ آخر کیے کاف حرفیہ خطابیہ راوپلے شی۔ دپارہ د دلالت کونرو پہ حال د مخاطب بانڈ  
 اوکاف حرفیہ قول بشپن دی د مصداق پہ لحاظ سرہ۔ او پنچہ دی د صورت پہ لحاظ سرہ۔

ک۔ کما، کم۔ ل۔ کما۔ کون۔

ضابطہ :- اسم اشارہ ہم واحد، تنبیہ، جمع مذکر اومؤنث راوپلے شی۔ اوکاف حرفیہ  
 خطابیہ ہم واحد، تنبیہ اوجمع مذکر اومؤنث راوپلے شی۔ لیکن اسم اشارہ بہ د مشار الیہ

ع شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازمی دارفانی نہ رحلت کہے دے۔ انا لله وانا اليه راجعون

مطابق راوہ لے شی۔ یعنی کہ چرے مشارٌ الیہ۔ واحد، تثنیہ، جمع مذکر یا مؤنث وی۔ نو اسم اشارہ بہ ہم واحد، تثنیہ، جمع مذکر یا مؤنث راوہ لے شی۔ د

د مخاطب مطابق۔ یعنی کہ چرے مخاطب مذکر وی یا مؤنث وی۔ نو کاف حرفیہ خطابیہ بہ ہم مذکر یا مؤنث راوہ لے شی۔ او کہ چرے مخاطب واحد، تثنیہ، جمع وی۔ نو کاف حرفیہ بہ ہم واحد، تثنیہ او جمع راوہ لے شی۔ مثال ۱۔ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ط  
اورس دلتہ کیے تفلور ٹھین ونہ موجود دی:

۱۔ مشیر اللہ تعالیٰ دے۔ ۲۔ مشارٌ الیہ کتاب دے۔

۳۔ مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ ۴۔ اسم اشارہ ذالک دہ۔

سوال :- دا اسم اشارہ مفرد مذکر لے ولے راوہ لے ؟

جواب :- دا حکہ چہ دے مشارٌ الیہ الکتاب مفرد مذکر دے۔

سوال :- کاف حرفیہ خطابیہ لے ولے مفرد مذکر راوہ لے ؟

جواب :- مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کرامی دے۔ حکہ لے کاف حرفیہ

خطابیہ مفرد مذکر راوہ لے۔ مثال ۱۔ اُولَئِكَ عَلٰی اِهْدٰى مِّنْ رَبِّهِمْ ط

۱۔ مشیر اللہ تعالیٰ دے۔ ۲۔ مشارٌ الیہ متقین دی چہ صغہ موصوف دی پہ لوصاف

خمسہ سرہ۔

۳۔ مخاطب حضرت محمدؐ۔ حکہ چہ اول مخاطب حضرت محمدؐ دے۔

۴۔ اسم اشارہ اُولَئِكَ دہ۔

سوال :- اسم اشارہ لے جمع ولے راوہ لے ؟

جواب :- دا حکہ چہ مشارٌ الیہ متقین جمع مذکر دہ۔

سوال :- کاف حرفیہ خطابیہ لے ولے مفرد مذکر راوہ لے ؟

جواب :- دا حکہ چہ مخاطب حضرت محمدؐ ذات کرامی دے۔

مثال ۱۔ وَتُؤَدُّوْا اَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمْوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

مشیر اللہ تعالیٰ دے۔ مشارٌ الیہ جنت دے۔ مخاطب اہل جنت دی۔ اسم اشارہ تِلْكَ دہ۔

سوال :- تِلْكَ اسم اشارہ مفرد مؤنث لے ولے راوہ لے ؟

جواب :- دا حکہ چہ مشارٌ الیہ الْجَنَّةُ مفرد مؤنث دے۔

سوال :- حُكْمُ حرف خطاب لے جمع مذکر ولے راوہ لے ؟

جواب :- اہل جنت مخاطبین جمع دی۔ بیائے مذکر تہ پہ مؤنث بانڈے غلبہ ویرکھ اوکھو

حرف خطاب کے جمع مذکر راہرو۔

فَأُنذِرَ :- د "تئی" پہ اخر کینے کاف حرفیہ خطابییہ ملحق کرے شو۔ او پہ میفخ کینے کے لام داخل کرے شو۔ نو قتی نُ ك شو۔ نو یاء پہ وجہ د التقایہ ساکنین سرہ پریرتہ نو تِلْكَ شو۔

قرآنی مثالونہ :- تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ غَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ط .

## اسم موصول

تعریف :- اسم موصول ہف ناممکمل او نامعلومہ اخیرتہ وائی۔ چہ د ہفہ تمامیت لو معلومیت د مابعد جملہ نہ حاصل وی۔ او مابعد جملہ تہ صلہ وائی۔ او موصول سرہ د خیلہ صلہ نہ د جملہ ہر جزہ کرچی۔ (اسما موصولہ پہ نحو میر کینے ذکر دی)۔

مثال :- «الَّذِينَ هَفَ خَلَقَ» اوس تہ ہفہ خلق، ہفہ خلق وایہ ! نو د اسم موصولنا مکمل ہم دے او نامعلوم ہم دے۔ لیکن کلا چہ تا واپاندے او وویل: يَوْمَ مِينُونَ بِالْغَيْبِ وَ يَمِينُونَ الصَّلَاةِ۔ نو ہفہ اسم موصول کوم چہ ناممکمل او نامعلوم وڈ۔ اوس مکمل ہم شو او معلوم ہم شو۔ چہ ہفہ خلق ہفہ دی چہ پہ غیب خبرو باندے ایمان لری او مونیق قاسری۔

## فرق یہ مابین دَمَنْ اَوْ مَا كَيْفَ

مَنْ ذُو الْعُقُولِ د پارہ استعمالیہی۔ لک: مَنْ رَبَّكَ۔ مَنْ تَبِيْلَكَ۔ او ما غیر ذوی العقول د پارہ استعمالیہی۔ لک: مَا دِيْنُكَ۔ لیکن کلا کلا دیوبل پہ حائے باندے ہم مستعملیہی۔

مثال د مَنْ :- چہ د ما پہ حائے باندے مستعمل وی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔

مثال د مَا :- چہ پہ حائے د مَنْ مستعمل وی۔ (وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا) قسم م دے وی پہ آسان باندے او پہ ہفہ ذات بندے چہ ہفہ آسان جوہ کرے دے۔

أَيُّ وَايَةٌ :-

سوال :- أَيُّ وَايَةٌ :- داخر معرب دی۔ دایے پہ بحث د مبنی کینے ولہ ذکر کرل!

جواب :- حاصل د جواب دادے چہ أَيُّ وَايَةٌ :- دے خلوی حالتونہ دی۔ پہ درے

حالتوں کیجئے معرب دے او پہ یوحالت کیجئے مبینی دی . نو پہ یوحالت کیجئے مبینی کیو پہ وجبے

پہ بخت د مبینی کیجئے ذکر کرل .  
دَائِيْ اَوْ اَيَّتِيْ خَلْوَرِ حَالَتُونِ

اَيُّ اَوْ اَيَّتِيْ پہ د دوو حالتوں نہ خالی نہ وی . یا پہ مضاف وی یا پہ نہ وی . کہ  
چرے مضاف تُوو . نو یا پہ ہم د دوو حالتوں نہ خالی نہ وی . صدر د صلے پہ ذکر وی ، یا پہ  
محدوف وی . کہ چرے مضاف وی . نو یا پہ ہم د دوو حالتوں نہ خالی نہ وی . صدر د صلے  
پہ ذکر وی ، یا پہ محدوف وی . نو تو ل خلو ر صورتوں چرہ پیری .

نمبر ۱ :- اَيُّ اَوْ اَيَّتِيْ :- چہ مضاف نہ وی او صدر د صلے ذکر وی . لکہ : اَيُّ هُوَ قَائِمٌ .

نمبر ۲ :- اَيُّ اَوْ اَيَّتِيْ :- چہ مضاف نہ وی او صدر د صلے مذکور نہ وی . لکہ : اَيُّ قَائِمٌ .

نمبر ۳ :- اَيُّ اَوْ اَيَّتِيْ :- چہ مضاف وی او صدر د صلے ذکر وی . لکہ : اَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ .

نمبر ۴ :- اَيُّ اَوْ اَيَّتِيْ :- چہ مضاف وی او صدر د صلے ذکر نہ وی . لکہ : اَيُّهُمْ قَائِمٌ .

اَيُّ اَوْ اَيَّتِيْ پہ اول درپرو صورتوں کیجئے معرب وی . او پہ خلو ر صورت کیجئے مبینی  
دی . ہم د دے یو صورت پہ وجہ سرے پہ بخت د مبینی کیجئے ذکر کرل .

فَلِكُلِّهٖ :- اسم موصول نہ بعد جُطے تہ صلہ وائی او ہفے کیجئے هُوَ وغیرہ مبتداء تہ صدر  
وائی .

اسماء افعال

اسماء افعال ہفے تہ وائی چہ پہ ظاہرہ خو اسماء وی لیکن معنوا د فعل و رکوی  
بعضہ پہ معنوا د فعل امر حاضر کیجئے دی .

رُوِيْدَا - پمعنوا د اَمِهْلُ - دُوْنَكَ پمعنوا خُدُ - بَلِه - پمعنوا د اَتْرُكُ - هَا پمعنوا د خُدُ ، عَلَيْكَ  
پہ معنوا د اَلزُّمُ - حَيَّهْلُ - پہ معنوا د اَقْبَلُ ، هَلُمَّ پہ معنوا د اَوْتِ ، آمين - پمعنوا د اِسْتَجِبْ  
بعضہ اسماء افعال پہ معنوا د فعل ماضی معلوم کیجئے دی .

هَيَّهَاتَ پہ معنوا د بَعْدُ - سَرُّهَانَ پمعنوا د سَرَّعَ - سَتَّانَ پہ معنوا د اِفْتَرَقَ .

اسماء اصوات

اسماء اصوات ہفے اسماء تہ وائی چہ د خرشمالی او یا د پنجم پہ وخت کیجئے داننا  
د خُطے نہ اوجی . یا دیو کنوار آواز نقل کرلو وخت یا یو خوار تہ د آواز کولو پہ وخت کیجئے .  
د خرشمالی پہ وخت مثلاً :- کھ چہ عرب خرشمالی نو بَخَّ بَخَّ وائی .  
پہ بلڑیہ کیجئے د خرشمالی الفاظ جدا جدا دی مثلاً - واہ واہ .

دغم پہ وخت د آواز مثال :- اُف - ہائے ، اُوہ ۔

د حُناور و د آواز د نقل کو لو مثال :- غَاقُ غَاقُ - مِیاؤں ، چیں چیں  
د کارنڈ آواز د پیشتر آواز د چنچنپے آواز

کہ ددے نر زیات مثال معلومول غواری نو کلی کینے چہ کلہ زمیندار ایوہ ۵ رھل کو  
او دغہ وخت چہ حُناور و تہ کوم آواز و تہ کوی ہف ہم پہ اسماء اصوات کینے داخل دی ۔  
مثال :- هُوَ هُوَ - کتہ کتہ ۔

## اسماء ظروف

ہفہ اسماء تہ وائی چہ دوخت یا د حائے پہ معنی باندے دلالت اوکری ۔ کہ چرے  
دوخت معنی باندے دلالت اوکری ۔ نو ظرف زمان ورتہ وائی ۔ او کہ چرے د حائے پہ معنی  
باندے دلالت اوکری نو ظرف مکان صتہ وائی ۔

ظرف زمان :- اِذَا - اِذْ - مَتَى - كَيْفَ - اَيَّانَ - اَمْسٍ - عَدَا - قَبْلُ - قَطُّ - عَوْضُ - مُنْذُ  
مُنْذُ - د متی د وہ معنی دی ؛ کہ چرے شرط د پارہ وی ۔ نو معنی بہے وی دھر کلہ ، او کہ چرے د  
استفہام د پارہ وی ۔ نو معنی بہے وی کلہ ۔

مثال : د شرط ۔ مَتَى تَذْهَبُ ، اِذْ هَبْ (ھر کلہ چرے تہے نوزہ بہ ہم حم)

مثال د استفہام :- مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، (کلہ بر وی دا وعدہ کہ چرے تاسو رینتی ہے)

كَيْفَ - د حال معلومول د پارہ راجی :- كَيْفَ حَالُكَ . (تہ خٹکے) (ستا حال خٹکے دے) ؟

اَيَّانَ - دوخت معلومول د پارہ راجی ۔ اَيَّانَ مَرُسَلًا . (کلہ بروی قائمیدل د قیامت) ۔

اَمْسٍ :- د تیر شوی سباؤن د پارہ راجی ۔ عَدَا - دراتلونکی سباؤن د پارہ راجی ۔

مُنْذُ وَمُنْذُ :- د یرکار دابتدائی یا تہلے مودے د بیانول د پارہ راجی ۔

د قَبْلُ يَعْذُ د رے حالتونہ :- قَبْلُ ، بَعْدُ ہمیشہ د پارہ مضاف وی ۔ فو د د مضاف

الیہ بہ د دوو حالتونہ خالی تہ وی ، یا بہ مذکور وی یا بہ محذوف وی ۔ کہ چرے مذکور وی

نوبیا معرب دی ، مثال لک : مِنْ قَبْلِهِ ۔ او کہ چرے مضاف الیہ محذوف وی ، نوبیا بہ د

دوو حالتونہ خالی تہ وی یا بہ محذوف پہ نَسِيًا مَنَسِيًا سرہ وی یا بہ محذوف منوی سرہ وی ۔

کہ چرے مضاف الیہ محذوف نَسِيًا مَنَسِيًا سرہ وی نوبیا معرب دے ۔ لک : جَاءَنِي زَيْدٌ مِنْ قَبْلِ

وَمِنْ بَعْدِ . (زا غلوماتہ زید د چانہ منکینے او د چانہ روستو) ۔ او کہ چرے مضاف الیہ

محذوف منوی وی نوبیا مبنی دی ۔ لک : لَيْلِي الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ ۔ ای من قَبْلُ

كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ بَعْدِ كُلِّ شَيْءٍ ۔

محذوف نسیاً منسیاً :- دا هغه دے چہ نہ ذہن کبے وی اور نہ کتاب او کلام کبے وی۔  
 محذوف منوی :- دا هغه دے چہ ذہن کبے خو وی لیکن کتاب او کلام کبے نہ وی۔  
 حَيْثُ، قَدْ، اَمَّ، خَلْفَ، فَوْقَ، تَحْتَ، يَمِينٍ، شِمَالٍ۔ دا ظرف مکان دی۔

### اسماء کنایات

دا هغه اسماء تہ والی چہ د هغه پہ ذریعے سرہ مبہم عدد یا صلی خبرے طرف  
 تہ اشارہ لوشی۔ کہ چرے مبہم عدد طرف تہ اشارہ اوشی نر هغه تہ کنایہ از عدد والی او  
 کہ چرے مبہم خبرے تہ اشارہ اوشی نر هغه تہ کنایہ از حدیث والی۔  
 مثال د کنایہ از عدد :- (کم و کذا) کَمُّ رَجُلًا عِنْدَكَ، (تاسرہ خورہ مہری دی؟)  
 مثال د کنایہ از حدیث :- کَيْتٌ وَ ذَيْتٌ۔  
 مثال د کیت :- قَالَ فُلَانٌ " كَيْتٌ وَ كَيْتٌ " (فلانی داسے داسے او وئیل)۔  
 مثال د ذیت :- قُلْتُ لَكَ ذَيْتٌ وَ ذَيْتٌ۔ (ما هغه تہ داسے داسے او وئیل)۔

### مرکب بنائی

هغه مرکب تہ والی چہ واضع دوہ اسمونہ د جُدا جُدا معنوی پارہ وضع کوی وی  
 اویا روستو خلقو د پارہ اسمونہ یوکری وی او دویم اسم متضمن حرف لڑک وی۔ لک:  
 اَحَدٌ عَشْرًا، اِثْنَا عَشَرَ۔

### ہر اسم پہ اعتبار د عموم او خصوص سر پہ دوہ قسمہ دے

اسم پہ اعتبار د معنی (عموم، خصوص) سر پہ دوہ قسمہ دے :- ۱۔ معرفہ، ۲۔ نکرہ

معرفہ :- دا هغه دے چہ واضع دے لڑک دیو معین خیر د پارہ وضع کوی وی۔ معرفہ پہ  
 اوہہ قسمہ دے :- ۱۔ اعلام، ۲۔ مضمرات، ۳۔ اسماء موصولہ، ۴۔ معرفہ باللام (یواسم نکرہ وی  
 او پہ هغه یاندے لے الف لام داخل کوی وی او هغه لڑکے معرفہ کجولے وی)۔ لک: الدَّجِيلُ  
 ۵۔ معرفہ بالتداو (چہ اسم نکرہ باندے لے حرف نداء داخل کوی وی او هغه لڑکے معرفہ کجولے  
 وی)۔ لک: يَا رَجُلُ۔ ۶۔ اسماء اشارات۔

۷ :- چہ یواسم پہ دغہ پنھو قسمونو کبے یو طرف تہ مضاف وی بیواد د معرفہ بالتداو  
 غُلَامٌ زَيْدٍ، غُلَامٌ هَذَا - غُلَامٌ السَّيِّدِ۔

معرفہ بالتداو تہ خو حکہ نش مضاف کیتا چہ معرفہ بالتداو تقاضا د صدارت د کلام  
 کوی۔ اوس کہ چرے دے طرف تہ یولفظ مضاف کوی نو د هغه صدارت فوت کیری۔

۱۔ اِعْلَامٌ (نومونہ) پہ پنھنہ قسمہ دی۔

اسم محض ، لقب ، کنیت ، تخلص ، خطاب .

اسم محض :- پہ وقت د پیدائش کنجہ چہ مور بہار کرم نوم کینبود لے وی۔ حفصہ ام

محض وائی ، لک :- طلحہ ، نعمان ، بلال وغیرہ

لقب :- حفصہ نوم تہ وائی چہ دچا بنہ یا بد صفت بیان کری۔ لک :- آسدا اللہ ، سیف اللہ

کنیت :- حفصہ نوم چہ د حفصہ پہ شروع کنجہ د لئو لفظ از نہ یو لفظ وی ۔ آب ، آخ ، اُخت ، ابن ، بنت ، خال ، خالہ ، عم ، عمتہ ۔

مثال :- ابوالقاسم ، ام کلثوم ، ابن مسعود ، ابوالطیب ، بنت مریم وغیرہ ۔

خطاب :- حفصہ نوم دے چہ دیوباد شاہ یا حاکم یا دیو جماعت د طرف نہ د اعزاز پہ طوا

باندے ملاؤ شی ۔ لک :- امیر شریعت ، شمس العلماء ، حکیم الامت ، شیخ الاسلام ۔

تخلص :- شاعران د خپل شناخت د پارہ یو مختصر نوم زدی او دغہ نوم پہ خپلو استعارو

کنجہ ذکر کوی ۔ نو دغہ نوم تہ تخلص وائی ۔ لک :- سعدی ، فردوسی ، کمتر وغیرہ ۔

شکرہ :- نکرہ هر حفصہ اسم تہ وائی چہ حفصہ لره واضع دیو غیر معین خیر د پارہ وضع

کری وی ۔ لک :- رَجُلٌ ، غُلَامٌ وغیرہ ۔

## اقسام د اسم پر اعتبار د جنس سرہ

اسم پہ اعتبار د جنس سرہ پہ درہ دولہ دے ۔ ۱۔ مذکر ، ۲۔ مؤنث ۔

اسم مذکر :- مذکر حفصہ اسم دے چہ پہ حفصہ کنجہ هیچ یوہ علامہ د مؤنث نہ وی ۔ لکن

زَيْدٌ ، عُمُرٌ ۔ بکرہ ۔

اسم مؤنث :- مؤنث حفصہ اسم دے چہ حفصہ کنجہ د تائیت د علامتو نہ یوہ علامہ موجودہ شی

لک :- اِمْرَةٌ ۔

د تائیت علامات :- د تائیت علامات خلودی : ۱۔ تائے ملفوظہ ، ۲۔ تائے مقدور

۳۔ الف مقصورہ ، ۴۔ الف مدودہ ۔

۱۔ تائے ملفوظہ :- حفصہ دے چہ حفصہ لفظاً موجودہ وی ۔ لک :- طلحہ ، حنظلہ ، حمزہ ۔

سوال :- داخود صحابہ کرامو نامے دی او حفصہ خو مذکورہ ؟

جواب :- نحویان بخت د الفاظو نہ کری نہ چہ د معانی نہ او ذات نہ ۔ لہذا چہ پہ

الفاظو کنجہ د تائیت علامت موجود وی فرحفصہ تہ پہ مؤنث وایو اگر کہ د مذکر (نمونہ وی ۔

فائدہ :- تائیت لفظی تذکیر حقیقی نشی زائل کولہ ۔ پہ دے وجہ سرہ طلحہ وغیرہ مذکر

دے ، البتہ د غیر منصرف سبب گرجید و کہنے بہ د دے لحاظ کو لے شی ۔ لهذا طلحة و علمیت  
او د تائیت لفظی پہ وچ سرہ بہ غیر منصرف وی ۔

تائے مقدرہ ۱ - تائے مقدرہ د تائیت ہفہ علامہ دہ - چہ ہفہ ظاہرہ نہ وی ۔ لکہ :

أَرْضٌ - چہ پہ اصل کہنے ارضۃ و ۔

دلیل ۱ - أَرْضٌ پہ اصل کہنے ارضۃ و - حککہ چہ د دے تصغیر أَرْضِیۃٌ رَاحِیۃٌ - او د  
تصغیر متعلق قانون دادے چہ التصغیر والتکسیر یُرَدُّ اِنْ اِلَّا شِیْءَ اِلٰی اَصْلِهَا -  
تصغیر او تکسیر اشیاء خیل اصل تہ واپس کوی - دے تہ مؤنث سماعی ہم وائی - یعنی د  
عربونہ اور بدلے شوے ۔

الف مقصورہ ۲ - لکہ : حُبْلَى ، عَطَشٌ ، ضَرْبًا ۔

تعریف د الف مقصورہ ۱ - دا ہفہ الف دے چہ ددہ پہ آخر کہنے ہمزہ یا بل خہ حرف مشد  
وی ۔

الف محدودہ ۱ - لکہ : حَمْرًا ، بَيْضًا ۔

تعریف د الف محدودہ ۲ - دا ہفہ الف دے چہ ددہ پہ آخر کہنے ہمزہ یا خہ حرف مشد وی ۔  
تائیت پہ دوہ قسمہ دے : ۱ - حقیقی ، ۲ - لفظی ۔

مؤنث حقیقی ۱ - ہفہ تہ وائی چہ د ہفہ پہ مقابلہ کہنے مذکر وی ۔ لکہ : امْرَأَةٌ  
مؤنث لفظی ۲ - ہفہ تہ وائی چہ د ہفہ پہ مقابلہ کہنے مذکر نہ وی ۔ لکہ : ظُلْمَةٌ ۔

### اقسام د اسمیہ اعتبار د عدد سرہ

اسم پہ اعتبار د عدد سرہ پہ درے قسمہ دے ۔ ۱ - واحد ، ۲ ، ثننیہ ، ۳ - جمع

۱ - اسم واحد ۱ - واحد ہفہ اسم دے چہ پہ یو ذات باندے دلالت اوکری ۔ لکہ : رَجُلٌ ۔

۲ - ثننیہ ۱ - ثننیہ ہفہ اسم دے چہ پہ دو باندے دلالت کوی ۔ لکہ : رَجُلَانِ ۔

بیا ثننیہ پہ دوہ قسمہ دہ ۔ ۱ - حقیقی ، ۲ - حکمی ۔

ثننیہ حقیقی ۱ - ثننیہ حقیقی ہفہ تہ وائی - چہ ہفہ کہنے خلور شرطوں موجود شی ۔

۱ - مفرد ہم وی ۔ ۲ - مفرد او ثننیہ مادہ ہم یوہ وی ، ۳ - پہ دو باندے ہم دلالت

کوی ۔ ۴ - د ہفہ پہ آخر کہنے الف ماقبل تریبہ مفتوح وی او نون مکسورہ وی - یا یاء ماقبل تریبہ

مفتوح او نون مکسورہ وی - لکہ : رَجُلَانِ ، رَجُلَيْنِ ۔

ثننیہ حکمی ۲ - ثننیہ حکمی ہفہ تہ وائی - چہ ہفہ کہنے پہ ذکر شری شرطوں کہے یو شرط

ہم موجود نہ وی ۔ لکہ - کَلَّا وَكَلِّتَا - پہ دے کہنے صرف دریم شرط موجود دے - یعنی پہ

دو دالات کول . اِشَان - اِشْتَان - پہ دوی کینے اولی دوه شرطونہ نہ دی موجود .

۳- جمع :- جمع ہفہ دہ چہ پہ دربیویانیاں ددریونہ دالات اوکری . لک: اِرِحَالُ الْعَالَمِينَ جمع پہ دوه قسمہ دہ - ۱- جمع حقیقی ، ۲- جمع حکمی .

جمع حقیقی :- جمع حقیقی ہفہ دہ - چہ پہ ہفہ کینے خلور شرطونہ موجود شی .

۱- د ہفہ مفرد ہم وی . ۲- مادہ د جمع او مفرد ہم یوہ وی . ۳- درے یاد دربیونہ نیا تر پاندے دالات اوکری . ۴- د دغہ جمع پہ آخر کینے واو ماقبل ترینہ مضموم وی او نون مفتوحہ وی - یا یاء ماقبل ترینہ مکسور او نون مفتوحہ وی . لک: مُسَلِّمُونَ - مُسَلِّمِينَ . جمع حکمی :- جمع حکمی ہفہ جمع دہ - چہ پہ ہفہ د ذکر شوی شرطونہ یو شرط ہم موجود نہ وی . لک: اَوْلُوا - پہ دے کینے اول او دویم شرط موجود دے - دغہ شان عِشْرُونَ وغیرہ - پہ دے کینے اول او دریم شرط نہ دے موجود - جمع حکمی تہ ملحق با لجمع ہم وافی -

جمع پہ اعتبار دلفظ سرہ پہ دوه قسمہ دہ . ۱- جمع مکسرہ ، ۲- جمع سالمہ

جمع مکسرہ :- دا ہفہ جمع دہ چہ پہ ہفہ کینے بنا د واحد مائے شوی وی . لک: اِرِحَالُ جمع دہ د رَجُلٌ - مَسَاجِدُ - جمع د مسجد دہ . اوزان د جمع مکسرے پہ ثلاثی کینے سماعی دی - یعنی د عربونہ سماع داسے شوی وی - او پہ رباعی او خماسی کینے قیاسی وی یعنی پہ وزن د فَعَالِلٌ او فَعَالِيلٌ باندے راجی - لک: جَعْفَرٌ چہ جمع ے جَعَا فِرٌ رَاجِي اود جَعْمَرٌ جمع جہامو راجی - پہ حذف د حرف خامس سرہ او جمع د رِيسَانٌ، دَنَانِيرٌ رَاجِي .

جمع سالمہ :- ہفہ جمع دہ چہ پکینے بنا د واحد سلامتہ وی . لک: اِمْلِئُوا، مَسَلَاتٌ جمع سالمہ پہ دوه قسمہ دہ . ۱- جمع مذکر سالمہ ۲- جمع مؤنث سالمہ - جمع مذکر سالمہ ہفہ جمع دہ چہ د ہفہ پہ آخر کینے واو، ماقبل ترینہ مضموم اونون مفتوحہ وی یا - یا ماقبل ترینہ مکسور اونون مفتوحہ وی . لک: اِمْلَمُونَ - مَسَلِينَ -

جمع مؤنث سالمہ :- ہفہ جمع دہ چہ د ہفہ پہ آخر کینے الف او تادک لک: مَسَلَاتٌ

جمع پہ اعتبار د معنی سرہ پہ دوه قسمہ دہ - ۱- جمع قلت ، ۲- جمع کثرت .

۱- جمع قلت :- داسے جمع چہ د ہفہ اطلاق د درگیونہ ترنہو پورے کیزی - ہفہ تہ جمع قلت وافی - د جمع قلت خلور اوزان دی :

۱- اَفْعَلٌ . لک: اَکَلٌ ، ۲- اَفْعَالٌ - لک: اَقْرَأُ ، ۳- فَعْلَةٌ - لک: عَلِمَةٌ . ۴- اَفْعَلَةٌ لک: اَمْرَةٌ

دے نہ علاوہ مسلمون او مسلمات ہم بغیر د الف لام نہ پہ جمع قلت کینے شمار کینے

جمع کثرت :- دایے جمع دہ چہ دھے اطلاق د لسٹونہ تر مالانہایت پورے وی۔ د جمع قلت د اوزان نہ علاوہ د جمع قول اوزان د جمع کثرت اوزان دی۔  
 قائمہ :- جمع قلت ارجع کثرت د یوبل پہ حائے باندے ہم استعمالین ی۔  
 مثال :- د جمع قلت چہ پہ حائے د جمع کثرت استعمال شوعے وی۔ اصحابُ الْجَنَّةِ .  
 مثال د جمع کثرت چہ پہ حائے د جمع قلت استعمال شوعے وی۔ قوله تعالیٰ: ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ .

### د عبارت لوستلو او اوریدلو طریقہ

پہ اول کہنے دے خو ورھے یوہ کربنہ یا کوم حائے کہنے چہ مضمون خقیقہ ی۔ تر  
 هذہ حایہ دے عبارت واوریدلے شی۔ بیادے پہ مزہ مزہ عبارت مقدار زیات کہے شی  
 او تلو طالبانز نہ دے بغیر دھے فرق نہ عبارت واوریدلے شی۔ خواہ کہ د طالبانو تعداد  
 سلونہ ہم زیات وی۔ پہ اول خل باندے دے د عبارت واوریدلو وخت کہنے طالب علم پہ عبارت  
 کہنے نہ بندوی۔ دے دپارہ چہ عبارت کہنے روانگی او تسلسل برقرار پاتے شی۔ او د طالب علم  
 غلطی دے پہ ذہن کہنے مسائی۔ کہ چرے طلبادزیات وی۔ فریوہ کاپی دے اُستاد اوسائی  
 پہ هفہ کہنے دے د هر طالب علم نوم اولیکی۔ کہ چہ یو طالب علم غلطی کوی۔ نو د هفہ غلطی دے  
 نوبت کوی۔ کہ چہ قول طالبان عبارت اولوی۔ نو چہ کومو طالبانو غلطی کہے وی پہ هفہ  
 باندے دے دو بیان عبارت اووائی۔ اوس کہ چرے دو بارہ غلطی اوکری۔ مثلاً د زبر پہ  
 حائے باندے لے زیر اولوستلو۔ نو تپوس دے ترینہ اوکری چہ د ازیر (کسرہ) دے ولے  
 لوستلے دے ؟ حال داچہ نہ خو پہ دے باندے حرف جر داخل دے اونہ د اعضاء الیہ دے  
 اونہ چرتہ د مجرور تابع دے۔ دغه شان کومو طالبانو چہ عبارت صحیح لوستلے  
 دے د هفہ نہ دے ہم پہ عبارت کہنے دنہ د اعراب متعلق سولات اوکری شی۔ حکم چہ  
 بعضے طالب علم پہ اندازے سرکہ صحیح عبارت لوی۔ لیکن هفہ نہ د اعراب وجہ بالکل نہ  
 وی معلوم۔ همدے خبرے طرف تہ د توجه راگھولو دپارہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق  
 صاحب د اہنت برکاتہم العالیۃ ارشاد فرمائی۔ کہ چرے طالب علم عبارت صحیح ہم  
 اولوی۔ نو بیا ہم د هفہ نہ تپوس کول پکار دی۔ چہ تا پہ دے لفظ باندے د اعراب  
 ولے لوستلے دے ؟ د زیارت پہ ورخ باندے د سبق وراوندے لوستلو پہ حائے دے د  
 کتاب د ابتداء نہ داخل تر آخری سبق پورے هر طالب علم نہ دے د مکمل عبارت واورید  
 شی۔ کہ چہ طالبان زیات وی نو بیا دے کم نہ کم هر طالب علم نہ یوہ یوہ پانرہ (ورق)

عبارت واردیدے شی۔ کہ چرے مینع کینے طالب علم غلطی اوکری۔ نو هغه بالکل مہ اودر وہ بلکہ د هغه غلطی پہ ذہن کینے ساتھ ، یاے پہ خہ کابی کینے نو ت کوہ . دے د پارہ چہ سبق او عبارت کینے روانگی او تسلسل برقرار وی۔ کله چہ قول طالبان عبارت اولوی ۔ نو اوس چہ کوم خائے کینے غلطی شوے وی۔ هغه خائے دے دوبارہ پہ طالبانو باندے او لوستلے شی . کہ چرے طالب علم دوبارہ غلطی اوکری نو د طالب علم نہ دے داعراب دو حہ پہ بارہ کینے تپوس اوکپے شی۔ چہ تا پہ دے لفظ باندے دا اعراب ولے لوستلے دے۔ او پہ دے باند کوم یو عامل داخل دے ؟۔ داسلسلہ دے کم نہ کم درے یا خلوں میاشتی پہ دے انداز سر جاری اوسائے شی ، الحمد للہ پہ دے ترتیب سرہ یہ پہ طالبانو کینے انشاء اللہ دعریا عبارت لوستلو ملکہ پیدا شی۔ داترتیب دے پہ قدوری او هدايت الخو کینے اختیار کرے شی۔ حکم چہ دادوارہ کتابونہ ابتدائی طالب علمانو لرو پہ عبارت کینے د روانولو د پارہ تجربتاً فائدہ مند ثابت مشوی دی .

### عبارت کینے د تکرار یوہ طریقہ

استاذ :- زما گرانو طالبانو ! یو حدیث مبارک تلاوت کری ؟

شاگرد :- کَلُّمُ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

استاذ :- کَلُّمُ ترکیب کینے خہ واقع شوے دے ؟

شاگرد :- دامضاف مضاف الیه مبتداء دہ .

استاذ :- دمبتداء اعراب خہ وی ؟

شاگرد :- اعراب دمبتداء رفع دہ یعنی مبتداء مرفوع وی .

استاذ :- رَاعٍ پہ ترکیب کینے خہ واقع شوے دے ؟

شاگرد :- داخبر دے .

استاذ :- خبر خو مرفوع وی او تہ خو دامجرور وائی ؟

شاگرد :- استاذ جی ! مانہ غلطی اوشوہ داخو مضاف الیه دے .

استاذ :- دیر احمق لے دشپے دے مطالعہ نہ دہ کرے۔ خہ پاسہ ! مطالعہ اوکری !

### مطالعہ دیار کا وقفہ

شاگرد :- استاذ جی ! زما پہ ذہن کینے خو هدا دی ۔ چہ دامضاف الیه دہ ۔ حکم چہ پہ

عام طور باندے پہ دنیا کینے مجرور دوہ خیزونہ واقع کیری ۔ مضاف الیه یا مجرور

پہ حرف جر۔ نو حرف جر خوب سے داخل نہ دے۔ لہذا لایہ مضاف الیہ وی۔

استاذ ۱۔ کہ چہرے راج لفظ مضاف الیہ وی۔ زیادت کہنے مضاف کوہ لفظ دے ؟  
شاگرد :- کلاً مضاف دے ۔

استاذ ۱۔ ہذا خوب کلمہ ضمیرتہ مضاف دے ؟

شاگرد :- یہ مزہ خونندے والی ؛ استاذ جی ! بیابہ ضمیر د کلمہ مضاف وی ۔

استاذ ۱۔ ستا اندازہ دانیان چہ ستا پہ خپل خبرہ باندے یقین نشہ دے۔ زما محترمہ !  
ضمیر کا ہم مضاف نہ نشی کیدے۔ دہہ شان اسم اشارہ لو اسم موصول وغیرہ  
ہم مضاف نشی کیدے۔ البتہ دا مضاف الیہ کر جید لے نشی ۔

شاگرد :- استاذ جی ! ماخو دیر فکر لو کرے۔ لیکن زما پہ ذہن کہنے ہیخہ رانغلہ ۔

استاذ ۱۔ تاخر مع سوچ کرے دے ؟ شاگرد ۱۔ لشر منہ ۔

استاذ ۱۔ داخر تا سوچ نہ دے کرے۔ بلکہ د کتاب نظارہ دے کرے دہ۔ لیکن یوسیل کو کہ

سرہ دہر یا جگر نظارہ کوی۔ یعنی سرسری نظر سرہ لو کرے لو روان نشی۔ فکر

لو سوچ خو ہر وی۔ چہ دستخے تندے پہ حالت کہنے اوبہ ہیرے گمے، او دستخے ولبرے پہ

حالت کہنے دووی ہیرے کرے۔ لیکن نن اولئہ ورخ دہ پہ دے وجہ زہ تلمو سرہ دومرہ تعلق

کھم۔ چہ راج د ما قبل د پارہ خبر کرے۔ لوس تہ دا اونیایہ ! چہ خبر خو مرفوع وی نو پہ دے

باندے رفع کوہ دہ ؟

شاگرد :- یہ لہو۔ فکر لو سوچ کہنے پروت دے۔ استاذ جی ! دے د مرفوع کیدو پہ وجہ

باندے خرزہ پورہ نہ شوم ۔

استاذ ۱۔ داد اعراب پہ شپار لئو قسمون کہنے کوہ برقیم دے ؟

شاگرد :- مفرد منصرف صحیح ۔

استاذ ۱۔ دے راج خوب ضہ لفظ سرہ راجی۔ لکہ جاہن زید ۔ لیکن دلہ خوضہ لفظی

نشہ !

شاگرد :- د اعراب پہ باقی اقسام کہنے خوب قسم ماتہ پہ نظر نہ راجی ۔

استاذ ۱۔ دلہ معلومیزی چہ ستا صرف کمزور دے۔ لوس تہ دا لووایہ ! چہ راج کوہ

صید دہ ؟ دپاو د دے چہ ستا صرف امتحان واخستل نشی ؟

شاگرد ۱۔ استاذ جی ! اصل کہ خبرہ مادہ۔ چہ ماتم جات پلس کرے وو بیاماتہ چا متورہ

واکرہ چہ تہ خوبہ اوقابل سرہ لے۔ لہذا تہ اصراف لو فارس لوستونہ بعیرہ دے

درجہ کئے داخلہ داخلہ! پہ دے وجہ سرہ ماصرف اوفارسی اونہ اویئل۔ او دوئعہ درجہ کئے ہے سبق شروع کرو۔ داخرماتہ اوس معلومہ شوہ چہ علم صرف خورمرہ اہم او ضروری خیز دے۔ د عربی پہ کتابون کئے ددے خورمرہ ضرورت دے؟

استاذ :- خشت اول چون نہ ہمار کج ۔ تاثر یا میرور دیوار کج ۔

زما گرانہ ! ستا مشیر تاتہ غلطہ مشورہ درکھے دہ۔ علم صرف تہ پہ معلوم عہہ دینہ کئے بنیادی مقام حاصل دے۔ او د علم نحو او علم صرف بارہ کئے مقولہ مشورہ دہ۔ لَعْرِفُ أُمُّ الْعُلُومِ وَالنَّحْوُ أَبُوهَا - علم صرف د علمو د پارہ پہ منزله دمور دے۔ او علم النحو پہ منزله د پلار دے۔ لہذا دکوم ماشوم پہ سرچہ د پلار، مور سورہ نہ وی۔ ہفہ یتیم وی۔ دغہ شانہ ہفہ طالب علم چہ ہفہ تہ صرف او نحو یاد نہ وی۔ ہفہ ہم باقی علوی کئے پہ منزله دیتیم بہ بے یار او مدد کار وی ۔

پہ دے وجہ سرہ زما مشورہ دادہ۔ چہ تہ خیل صرف مضبوط کرہ۔ او د ہفہ طریقہ دادہ چہ د خیل تعلیم سلسلہ جاری ساتلو سرہ سرہ د صرف یو کتاب شروع کرہ۔ پہ ہفہ کئے قوانین سرہ د کرم انونو بنہ یاد کرہ۔ انشاء اللہ تاتہ بہ دیر زما ددے سوال جواب معلوم شی چہ راع پہ شپارلنوا اقسامو کئے کوم یوقسیم دے ۔

شاگرد :- استاذ جی ! تاسو زما پہ نبض باندہ لاس ایتبودہ دے او زما د مرض تشخیص موصحیح کہے دے۔ اللہ پاک دے تاسو تہ د خیل شان مطابق اجر عظیم د کرے زہ انشاء اللہ اوس ارشاد العرف ، العرف الکامل یا العرف العزیز شروع کوم۔ حکم چہ زہ خراوس پہ ابتدائی درجو کئے ییم او پہ ابتداء کئے خیلہ کمزوری لرے کول اسان وی ۔

دوقفہ ۔۔۔ د پارہ د یادولو د صرف ۔۔۔ دوقفہ )

استاذ :- زما عزیزہ ! من خوتہ دیر خوش حالہ نیکارے ختہ وجہ دہ ؟

شاگرد :- استاذ جی ! زہ بہ ولے نہ خوش حالیم۔ تاسو چہ زما خیر خواہی د پارہ کومہ مشورہ راکھے وہ۔ ہفہ بالکل صحیح ثابتہ شوہ۔ الحمد للہ ! ماد صرف کرم انونہ

سرہ د قوانینو بنہ یاد کرے دی۔ د اللہ پہ فضل او کرم سرہ ماتہ نن معلومہ شوہ چہ راع کومہ صیغہ دہ او د اعراب پہ شپارلنوا اقسامو کئے کوم قسم دے ؟

استاذ :- باریک اللہ فی علمکم و عملکم - او وایہ چہ کوم قسم دے ؟

شاگرد :- داد ناقصونہ د اسم فاعل صیغہ دہ۔ حکم چہ دا پہ اصل کئے راعی رو۔ ضمتہ پہ یاء ثقیلہ وہ۔ دیدعو تدعو پہ قانون باندہ ضمہ او غور حیدہ۔ بیا التبارک د

ساکنینو لفظ۔ پہ مابین د یار اوتنوں کئے۔ لہذا پہ وجہ د التقاء د ساکنینو یار حذف شو  
نواع شو۔ او د اعراب پہ شہار سو اقسامو کئے د اسم منقوص دے۔ او د اسم منقوص  
رفع پہ ضمی تقدیری سرہ راجی۔ لہذا اوس ترکیب آسان شو۔  
مَلِكُمْ مضاف مضاف الیہ مبتدأ بشرطه او راجعے خبر شو مبتدأ سرہ خبر منہ  
جمل اسمیہ خبریہ شوہ۔

استاذ :- ماشاء اللہ! تاخو واقعی صرف یاد کرے دے۔ او تا صحیح جواب ورکھو  
لہذا زما عزیزہ! د صرف گردانونہ بنے یاد کرے۔ او د صیغو بنے مشق او کرے،  
حکے چہ خمورہ د صیغو زیات مشق کیری۔ ہفہ خمورہ بہ د صیغو بنے شناخت کیری۔ او  
خمورہ چہ د صیغو زیات شناخت کیری۔ ہفہ خمورہ بہ مطالعہ کئے زیات قوت پیدا کیری۔  
او د عربی عبارت ترجمہ او معنی باندے بہ د خان پوھولو کئے آسانی وی۔ ماشاء اللہ! تاخو  
ترکیب حل کرے اوس راتہ اوسنایہ! چہ د راجع معنی خہ دہ ؟  
مشاخرہ :- استاذ جی! د راجع معنی راتہ معلوم نہ دہ۔

استاذ :- لغت کئے او کرے! مشاخرہ :- ماتر لغت کتلو طریقہ نہ راجی۔

استاذ :- زما عزیزہ! دیو لفظ معنی پہ لغت کئے د کتلو طریقہ دادہ چہ اول د کوم لفظ معنی کتل  
خواہے نو د ہفہ لفظ مادہ یعنی اصل حرف معلوم کرے۔ او د اصل حروف معلومولو طریقہ  
دادہ چہ پہ کلمہ کئے خمورہ حروف زائدہ دی۔ ہفہ حذف کرے۔ مثلاً کلمہ کئے ضمائر  
او علامتوں د اہول زائدہ وی۔ بیا علامت نہ مراد عام دے۔ خواہ کہ د باب او گردان علامت  
وی یا کہ د تشبیہ، جمع او مؤنث علامت وی۔ لہذا یَضْرِبُ، تَضْرِبُ، اِضْرِبُ، نَضْرِبُ  
غیرہ کئے علامت د مضارع حروف د آئین دی۔ او یضربان، تضربان وغیرہ کئے ضمیر د  
لف او نون اعرابی دے، او ضَرِبْتَ - ضَرَبْتُمَا - ضَرَبْتُمْ کئے (ت، تم، انتم) ضمیروں د  
اہول زائدہ دی۔

د دوی پہ مادہ کئے ہیخ دخل نشتہ۔ او د غہ نشان کہ چرے یو اصلی حرف د خہ  
قانون پہ وجہ سرہ حذف شوے وی۔ یا چرتہ بل حرف سرہ بدل شوے وی، یا چرتہ بل حرف  
کئے مدغم شوے وی۔ نو ہفہ مادے تہ واپس راوے۔ دلہ کئے د اخیرہ یادہ ساتی۔ چہ د  
مادہ اصلی معلوم لو د پار د صرف قوانین او گردانونہ یادوں انتہائی ضروری دی۔ خاصکر  
اجوف، ناقص او لفیف صیغو کئے حروف اصلیہ معلوم لو د پار د صیغو پڑندل دیرضہ۔ ری  
دی او د صیغو پڑندل بہ ہلہ کیری۔ کہ چہ گردانونہ او قوانین یادوی۔ د مادہ ۱۱۵ حلیم

معلومولو یو خوشا لوند .

|                 |            |               |            |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| صیغہ            | مادہ اصلیه | صیغہ          | مادہ اصلیه |
| كَرَيْبِمُ      | ضَرَبَ     | سَلَّ         | سَلَّ      |
| يَعْدُ          | وَعَدَ     | مَاتَتْ       | مَاتَتْ    |
| قَلْنِ          | قَوْلَ     | لَمْ تَنْفِخْ | نَفَخَ     |
| يَوْمَ مِينُونَ | أَمَّنَ    | إِنِّي        | وَقَى      |

ھرکھ چہ مادہ اصلیه معلومہ شوہ فرانس ددے معنی د لغت پہ فر کتاب مثلاً مصباح اللغات ، المنجد وغیرہ کینے اوکوری۔ لغت کینے اول د مجرد و الفاظ معنی لیکلے وی بیاید مزید و لیکلے وی۔ بیاید یو لفظ شو معنی وی چہ کومہ معنی د محل او مقام مناسب وی نو ہم ہنہ معنی لے وکرہ ! د مثال پہ طور باندے تہ د قدوری کتاب الصلوٰۃ ص ۲۳ کینے د یو لفظ کنتَفَخْ معنی معلومول غواہے۔ نو تولو نہ منجکینے د ہنہ مادہ راو باسہ ! ہنہ د ۵۔ - نَفَخَ۔ اولس د لغت کتاب مثلاً مصباح اللغات کینے د فون والا تھتی راو باسہ ! او بیاید ہنہ کینے ہنہ صفحہ تلاش کرے۔ چہ ہنہ کینے د نَفَخ والا مادہ لیکلے وی۔ پہ ہنہ کینے د نَفَخ مجرد لولہ معنی لیکلے دہ ۵۔ پہ خولہ باندے پوکے وھل ، د نَفَخ مجرد معنی خود لہتہ کینے صحیح نہ دہ۔ نو ویراندے اوکوری ! لولہ باب افتعال صیغہ تلاش کرے۔ حکہ چہ دا صیغہ باب افتعال دہ۔ لہذا اچھ کلہ معنی مں لوکتل۔ نو د باب افتعال صیغہ ملاو اشوہ۔ او ہنہ دہ اِنْفَخ۔ ددے اولہ معنی دہ پرسیدل۔ لولہ دویمہ معنی لہ دہ اوچتہ بدل۔ فرانس دلہ کینے اولہ معنی د مقام مناسب دہ۔ فر دلہ کینے بہ اولہ معنی مراد وی۔ لہذا د پوری عبارت مطلب د امش چہ کدہ کوی کینے مردار مہزہ یا بل شہ حنار ہیامندہ مش۔ او د پریوتلو وخت لے نہ نو معنی لولہ ہنہ پرسیدل لے ہم نہ ویر۔ نو د دھہ کوی نہ اردس کورونکی مونیہ گذلہ بہ دیوے وریھ لولہ شپے مونیخونہ راجکھ کوی۔ د مسئلہ د وضاحت د پارہ اوکوری (قدوری کتاب لطافۃ ص ۳۰ زما عزیزہ ! دے قصید سورہ بہ پہ لغت کینے د یو لفظ معنی کتو طریقہ باندے پورہ شوکے

شاعرہ :- جی استلاھی ! الحمد للہ دا طریقہ ہے پہ ذہن کھنہ نہ کھناستلہ .

استاذ :- اوس تہ اونہیہ ! چہ دراع اصل مادہ او معنی لہ دہ ؟

شاعرہ :- دہے پہ مادہ اصلیه کبے دوہ احتمال دہ (۱) ناقص واری دی د رَمَوْنِہ ، یناقص یا بُی مکہ د رَمَوْنِہ ۔ اولہ احتمال خوصیح نہ دہ حکہ چہ (۲) ناقص واری (نَاقِصًا ، رَاقِصًا ، فریاد دے دیرے معنی دہ (۱) د حنار کیدہ خولہ یعنی خرید لہ (۲) حنار پہ کیدہ کینے خولہ .

(۳) دستور پر پرتلو یعنی د غائب کیدلو انتظار کول . (۴) حفاظت کول (نورے معنی دلفت پہ کتابونو کینے اوکری)۔ نو پہ دے حدیث شریف کینے خلوہ معنی صحیح کیدی۔ چہ تاسو تہول محافظین اوساتونکی یئی ، دغہ شان کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کینے د رَعِيَّتِهِ دیرے معنی دی :

(۱) خریدونکے حُنَّاور ، (۲) ہفہ حُنَّاور چہ ہفہوئے خروے شی . (۳) قوم ، (۴) دیوہاکم ماتحت عام خلق۔ اوس دلہ کینے خلوہ معنی د مقام مناسب دہ۔ لہذا اخلوہ معنی بہ مراد کیدے شی . لہذا د حدیث پالک مطلب بہ داوی : پہ تاسو کینے ہریو نکھبان دے ، او پہ تاسو کینے بہ د ہریو نہ د ہفہ د ماتحتو خلقو بارہ کینے تپوس کیری۔

## د اجراء طریقہ

د اجراء دوہ طریقے دی : نمبر ۱ :- د نحو میر درس ورکولوسرہ ۔

د نحو میر چہ کرم بچٹ اولوستلے شی۔ نو د ہفہ بچٹ اجراء دے د قرآنکرم او احادیث نبویہ نہ اوکریے شی۔ مثلاً۔ کہ چہ نحو میر کینے علامات د اسم، فعل او حرف اولوستلے شی نو اوس دے قرآنکرم معنی تہ کیری دی۔ او طالبانو بانڈے دے یو یو ایت تلاوت اوکریے شی۔ مثلاً : د قرآنکرم یو ایت الحمد لله رب العالمین تلاوت اوشونو اوس د سوال طریقہ دادہ :

استاذ :- الحمد مفرد دے کہ مرکب دے ؟ شاگرد :- مفرد دے ۔

استاذ :- د مفرد دویم نوم خہ دے ؟ شاگرد :- کلمہ ۔

استاذ :- داد کلمے کوم یو قسم دے ؟ شاگرد :- دا اسم دے ۔

استاذ :- تاتہ خنک معلومہ شوہ چہ دا اسم دے ؟

شاگرد :- د الحمد د الف لام پہ ذریعے سرہ راقہ معلومہ شوہ چہ دا اسم دے ۔ حکم چہ دخول د الف لام علامہ د اسم دہ ۔

استاذ :- د دے علامہ یوشو مثالونہ د قرآنکرم او احادیث نبویہ نہ بیان کرہ ؟ د دے د پارہ چہ ستا پہ ذہن کینے وسعت پیدا شی ۔

شاگرد :- د دے علامہ مثالونہ قرآنکرم او احادیث نبویہ کینے بے شمارہ دی ، لکہ قرآنکرم کینے : العالمین ، الرحمن ، الرحیم ، الكتاب ، المزمّل ، المدثر ۔

د احادیث نبویہ نہ :- الاعمال ، النیات ، الیّد ، العلیا ۔ دغہ شان د باقی بچتونو ۔

کینے دے تپوسونہ اوکریے شی ۔

نمبر ۲ :- د نحو میر پہ حتمی دوسرہ ۔ د نحو میر ختمی دونہ پس بہ دوہ قسمہ سوالات وی :

دسوالا تو د اولی قسم تعلق بہ دمفردا تو سرہ وی۔ یعنی دکلماتو د ذلذ پیژندگی بہ بارہ کئے بہ  
سوالا تو وی .

دسوالا تو د دویم قسم تعلق بہ دمکباتو سرہ وی .

### دمفردا تو بارہ کئے د سوال کولو طریقہ :-

مثلاً د نحو میر ختمیدونہ پس طالب علم دا ایت : الحمد للہ رب العالمین ہو تو

نواوس د سوال کولو طریقہ بہ دا وی :

استاذ :- العالمین مفرد دے کہ مرکب دے ؟

شاگرد :- مفرد دے حکم چہ یواہی لفظ دے .

استاذ :- مفرد دکلیے کوم یو قسم دے ؟ شاگرد :- داسم دے .

استاذ :- دے کئے داسم کوم علامتوںہ موجود دی ؟

شاگرد :- دے کئے داسم دوہ علامتوںہ موجود دی۔ یودخول دلف لام دے ، او دویم صیغہ

دجمع دہ .

استاذ :- دامعرفہ دہ کہ نکرہ دہ ؟ شاگرد :- معرفہ دہ .

استاذ :- دمعرفہ کوم یو قسم دے ؟ شاگرد :- معرفہ باللام دے .

استاذ :- دامذکر دے کہ مؤنث دے ؟

شاگرد :- مذکر دے حکم چہ پہ دے کئے علاقہ دتانیث نیشتہ .

استاذ :- داواحد دے کہ تشبیہ یاجمع دہ ؟ شاگرد :- داجمع دہ .

استاذ :- داجمع مکرہ دہ کہ جمع سالمہ دہ ؟ شاگرد :- داجمع سالمہ دہ .

استاذ :- دادجمع کوم یو قسم دے ؟ شاگرد :- داجمع مذکر سالمہ دہ .

استاذ :- جمع مذکر سالمہ خذتہ والی ؟

شاگرد :- دکوم مفرد پہ اخر کئے چہ واو ماقبل مضمون اونون مفتوحہ وی ، یا یاو ماقبل مکسور

اونون مفتوحہ وی .

استاذ :- دامعرب دے کہ مبنی دے ؟ شاگرد :- دامعرب دے .

استاذ :- تاتہ خنک پتہ اولگیدہ۔ چہ دامعرب دے ؟

شاگرد :- حکم چہ دامبنی الاصل ہم نہ دے لو داسم غیر ممکن پہ اتواصل کو کئے ہم نہ دے

استاذ :- معرب پہ دنیا کئے خرمہ خیرونہ واقع کیزی ؟

- شاگرد :- پہ دینا کینے معرب دوہ خیزونہ واقع شوی دی : (۱) فعل مضارع چہ نون د جمع مؤنث  
 او نون تکید نہ خالی وی - (۲) اسم متمکن چہ ترکیب کینے واقع وی -
- استاذ :- العالمین د معرب پہ دغہ دوو خیزونہ کینے کوم خیز واقع شوے دے ؟  
 شاگرد :- ولتہ کینے العالمین ترکیب کینے اسم متمکن واقع شوے دے -
- استاذ :- کد چہ تا د العالمین د معرب گر حیدو دعویٰ او کبرہ نوبہ تا بانڈے خلور سوالات  
 مسلط بشول :- (۱) معرب ولے دے ؟ (۲) اعراب لے خہ دے ؟ (۳) محل د اعراب لے خہ  
 دے ؟ (۴) عامل د اعراب لے خہ دے ؟
- استاذ :- معرب ولے دے ؟  
 شاگرد :- د اسم متمکن ترکیب کینے واقع شوے دے -
- استاذ :- اعراب لے خہ دے ؟ او د اعراب پہ شپار سو قسمون کینے کوم یو قسم دے ؟  
 شاگرد :- د دے اعراب اعراب بالاحرف دے - جر یا مکسور سرہ - او د اعراب پہ شپار سو  
 اقسام کینے جمع مذکر سالمہ دہ -
- استاذ :- محل د اعراب لے خہ دے ؟  
 شاگرد :- د اعراب د محل سوال پہ اعراب بالحرکت کینے کیری - اعراب بالاحرف کینے نہ کیری، لکہ  
 لکھا کینے محل د اعراب (کا) دہ -
- استاذ :- العالمین کینے عامل د اعراب خہ دے ؟  
 شاگرد :- رب مضاف پہ جمع کینے عامل دے -
- استاذ :- عامل پہ خرقسمہ دے ؟ شاگرد :- عامل پہ دوہ قسمہ دے : (۱) لفظی، (۲) معنوی  
 استاذ :- رب عامل لفظی دے کہ معنوی دے ؟ شاگرد :- عامل لفظی دے -
- استاذ :- عامل لفظی پہ خرقسمہ دے ؟  
 شاگرد :- پہ درے قسمہ دے : (۱) حروف عاملہ، (۲) افعال عاملہ، (۳) اسماء عاملہ -
- استاذ :- دا پہ دغہ در یو قسمون کینے کوم یو قسم دے ؟  
 شاگرد :- دا پہ اسماء عاملہ کینے دے -
- استاذ :- اسماء عاملہ طورہ دی ؟ شاگرد :- یوولس دی -
- استاذ :- دا کوم یو قسم دے ؟ شاگرد :- دا اسم مضاف دے -
- استاذ :- دا خہ عمل کوی ؟ شاگرد :- دا خہ مضاف الیہ تہ جر و رکوی -
- استاذ :- دہ خو خیل مضاف الیہ رب العالمین تہ جر تہ دے و رکہے - حکہ چہ تہ خو پہ

العالمین باندے فتحہ وائی ؟

شاہرہ :- استاذ جی ! د جر و رکولو مطلب صرف کسرہ و رکول نہ دی۔ بلکہ جر درے خیزونو سرہ راجی ، کسرے سرہ ، فتحے سرہ ، او یا سرہ۔ دلتہ کجے جریا سرہ دے۔ دغہ شان درفعے مطلب فتحہ نہ دے۔ بلکہ رفع درے خیزونو سرہ راجی ، ضیعے سرہ ، واو سرہ ، لوالف سرہ۔ دغہ شان در نصب و رکولو مطلب دانہ دے چہ فقہ دے پرے راشی۔ بلکہ نصب خلور خیزونو سرہ راجی ، فتحے سرہ ، کسرے سرہ ، یا سرہ اولف سرہ ۔  
استاذ :- جر فتحے ، کسرے او یا سرہ پہ خرمہ قسمونو کجے راجی ؟ او پہ کوم قسمونو کجے راجی ؟

شاہرہ :- جر پہ کسرے سرہ پہ اوو قسمونو کجے راجی ۔ (۱) مفرد منصرف صحیح ، (۲) جار مجرای صحیح ، (۳) جمع مکسر منصرف ، (۴) جمع مؤنث سالم ، (۵) غیر جمع مذکر سالم چہ کلمہ مضاف وی یا ئے متکلم تہ ۔ (۶) اسم مقصور ، (۷) اسم منقوص او جر پہ فتحے سرہ پہ یو قسم کجے راجی او ہفہ غیر منصرف دے ۔ باقی اتہ قسمونو کجے جس پہ یا سرہ راجی ۔ (۱) اسماء ستہ مکبیرہ مؤحدہ مضافہ الی غیر یا ال المتکلم ، (۲) مشنی (۳) کلا وکلتا ، (۴) جمع مذکر سالم ، (۵) عشرون الی تسعون ، (۶) اولو ، (۷) اشنان و اشنان ، (۸) جمع مذکر سالم مضافہ الی یا ال المتکلم ۔

استاذ :- رفع پہ ضیعے ، الف او واو سرہ پہ خرمہ قسمونو کجے راجی ؟  
شاہرہ :- رفع پہ ضیعے سرہ پہ اترو قسمونو کجے راجی ۔ (۱) مفرد منصرف صحیح ، (۲) جار مجرای صحیح ، (۳) جمع مکسر منصرف ، (۴) جمع مؤنث سالم ، (۵) غیر منصرف ، (۶) غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا ال المتکلم ، (۷) اسم مقصور ، (۸) اسم منقوص ۔

رفع واو سرہ پہ پخو قسمونو کجے راجی : (۱) اسماء ستہ مکبیرہ مؤحدہ مضاف الی غیر یا ال المتکلم ، (۲) جمع مذکر سالم ، (۳) عشرون الی تسعون ، (۴) اولو ، (۵) جمع مذکر سالم مضاف الی یا ال المتکلم ۔

رفع پہ الف سرہ پہ درے قسمونو کجے راجی : (۱) مشنی ، (۲) کلا وکلتا ، (۳) اشنان و اشنان ۔

استاذ :- نصب پہ فتحے ، کسرے ، الف او یا سرہ پہ خرمہ او کومہ قسمونو کجے راجی ؟  
شاہرہ :- نصب پہ فتحے سرہ اوو قسمونو کجے راجی ۔ (۱) مفرد منصرف صحیح ، (۲) جار مجری

لی یاء المتکلم، (۶) اسم مقصور، (۷) اسم منقوص۔

نصب پہ کسے سرہ صرف پہ یوقسم کہنے راجی ہفہ جمع مؤنث سلمہ دہ، نصب پہ الف سرہ پہ یوقسم کہنے راجی اوہفہ دے اسماء ستہ مکبرہ مؤحدہ مضافہ الی غیر یاء المتکلم۔  
 او نصب پہ یاء سرہ اوو قسمنو کہنے راجی: (۱) مثنیٰ، (۲) کلاو کلتا، (۳) اثنان و اثنان، (۴) جمع مذکر سالم، (۵) اولو، (۶) عشرون الی تسعون، (۷) جمع مذکر سالم مضاف الی یاء المتکلم۔

### مرکباتو کہنے د سوال کولو طریقہ

طالب علم دا ایت الحمد لله رب العالمین اولوستلو۔ اوس د سوال کولو طریقہ

دادہ :- استاذ :- رب العالمین ضرور دے کہ مرکب دے ؟ شاگرد :- مرکب دے ۔

استاذ :- تاتہ ٹنکہ معلومہ شوہ چہ دامرکب دے ؟

شاگرد :- حکم چہ رب العالمین دوو کلمو نہ جوہر دے اوکرم خینچہ دیوے نہ دزیلور کلمو نہ جوہر شی نوہفہ مرکب وے ۔

استاذ :- داد مرکب کوم یوقسم دے ؟ شاگرد :- مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید دے

استاذ :- د مرکب ناقص خودیہ اقسام دی داے کوم یوقسم دے ؟

شاگرد :- دا مرکب اضافی دے ۔

استاذ :- مرکب اضافی خہ شیہ وی ؟ شاگرد :- چہ د مضاف مضاف الیہ نہ جوہر شی ۔

استاذ :- تاتہ ٹنکہ معلومہ شوہ چہ داہہ خیلو کہنے مضاف مضاف الیہ دے ؟

شاگرد :- د مضاف مضاف الیہ د علامت نہ ۔

استاذ :- پہ دے کہنے د مضاف مضاف الیہ کومہ علامہ موجود دہ ؟

شاگرد :- ہفہ دادہ چہ پہ اولی اسم باندے الف لام نہ وی، لو پہ دویم اسم باندے الف لام

وی نو داہہ خیلو کہنے مضاف مضاف الیہ جوہر پیزی ۔

استاذ :- ترجمہ لے اکرہ ؟ شاگرد :- توہر لوجہانورنو ہالونکے ۔

استاذ :- مرکب ناقص جملہ وی یا جزا د جملہ وی ۔

شاگرد :- جزا د جملہ وی ۔

استاذ :- کہ چہرے دا جزا د جملہ وی، نو ایاد امرکب اضافی واقع دے ؟

شاگرد :- دا مضاف مضاف الیہ صفت دے دا لنگ د پلک ۔

استاذ :- موصوف صفت کوم یو مرکب جوہر پیزی ؟ شاگرد :- مرکب توصیفی ۔

استاذ :- مرکب توصیفی مرکب تام دے کہ مرکب ناقص ؟

شاگرد :- مرکب ناقص دے .

استاذ :- مرکب ناقص خوجزا دجملے وی، تو داصفت موصوف خہ خیر گرجی ؟

شاگرد :- داصفت موصوف مجرور گرجی .

استاذ :- تاتہ خنکہ معلومہ بشوہ چہ دامجرور دے ؟

شاگرد :- دلام جارہ ددخول پہ وجہ سرہ .

استاذ :- جار مجرور خہ گرجی ؟ شاگرد :- ظرف مجازی گرجی .

استاذ :- ظرف مجازی پہ طر قسمة دے ؟

شاگرد :- ظرف مجازی پہ دوہ قسمة دے . "ظرف مستقر ، (۲) ظرف لکوف .

استاذ :- داکوم پر ظرف دے ، شاگرد :- داظرف مستقر دے .

استاذ :- پرکوم پر مقام کینے واقع دے ؟ شاگرد :- پہ مقام دخیر کینے واقع دے .

استاذ :- ظرف مبتقر چہ کلہ پہ مقام دخیر کینے واقع وی تود مغز متعلق بہ خہ راؤ باسو ؟

شاگرد :- ددہ پہ متعلق کینے اختلاف دے دبصریان تو اوکوفیانو - بصریان والی چہ موبینہ

دده متعلق فعل راؤ باسو اوکوفیان والی چہ موبینہ ددہ متعلق اسم راؤ باسو

استاذ :- تو بنیا اصل عبارت بہ خہ وی ؟

شاگرد :- الحمد ثبت لله رب العالمین یا الحمد ثابت لله رب العالمین .

استاذ :- ترکیبے اوکرہ ؟

شاگرد :- الحمد ثبت لله رب العالمین :- الحمد مبتداء ، ثبت فعل ، هو ضمیر فاعل

چہ راجع دے مبتداء تہ - لام جار ، لفظ اللہ موصوف - رب مضاف ، عالمین

مضاف الیہ - مضاف سرہ دمضاف الیہ نہ صفت د اللہ ؟ - موصوف سرہ دصفت نہ مجرور جار

جار سرہ دخیل مجرور نہ متعلق پہ ثبت فعل پرہ - ثبت فعل سرہ دخیل فاعل او

متعلق نہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر د مبتداء - مبتداء سرہ دخیر نہ جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً

او انشائیہ معنا .

الحمد ثابت لله رب العالمین - الحمد - مبتداء - ثابت ضمیر داسم فاعل

دہ - معتمد بر مبتداء ر یعمل عمل فعلیہ ، ضمیر پکینے خود دے - صفی فاعل چہ راجع

دے مبتداء تہ - لام جار ، اللہ - موصوف ، رب مضاف ، عالمین مضاف الیہ - مضاف سرہ

دمضاف الیہ نہ صفت دموصوف چہ لفظ اللہ دے - موصوف سرہ دصفتانہ مجرور جار

یہ آتم دے۔ جار سرہ دمجرور نہ متعلق پہ ثابت پرچہ۔ اسم فاعل سرہ د فاعل او متعلق نہ خبر مبتدا۔ ا۔ مبتداء سرہ دخیل خبر نہ جملہ اسمیہ خبریہ۔

فائدہ:۔ ہفہ افعال (دمدھ او ذم وغیرہ) چہ ہفہ لہ انسان فی الحال ایجاد کوی ہفہ ہم پہ انشاء کجہ داخل دی۔

استاذ:۔ ترجمہ ہے اوکرہ؟

شاگرد:۔ تمام صفتوں نہ ثابت دی اللہ لہ۔ داعی اللہ چہ د تولو مخلوقا تو پالونکے دے  
أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .

استاذ:۔ اعبد اللہ مفرد دے کہ مرکب؟ شاگرد:۔ دامرکب دے۔

استاذ:۔ مرکب مفید دے کہ مرکب غیر مفید؟ شاگرد:۔ مرکب مفید دے۔

استاذ:۔ مرکب مفید کوم یو قسم دے؟ شاگرد:۔ جملہ انشائیہ دہ۔

استاذ:۔ جملہ انشائیہ کجہ کوم یو قسم دے؟ شاگرد:۔ دامردہ۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ط

استاذ:۔ دامفرد دے کہ مرکب؟ شاگرد:۔ دامرکب دے۔

استاذ:۔ دامرکب کوم قسم دے؟ شاگرد:۔ دامرکب مفید دے۔

استاذ:۔ دامرکب مفید کوم یو قسم دے؟ شاگرد:۔ دامرکب مفید دے۔

استاذ:۔ دجملے خبریے کوم یو قسم دے جملہ اسمیہ کہ جملہ فعلیہ؟

شاگرد:۔ دامرکب فعلیہ دہ۔

استاذ:۔ دجملے فعلیے اول اور دویم جز نہ خبر والی؟

شاگرد:۔ اول جز نہ فعل والی اور دویم جز نہ فاعل والی۔

استاذ:۔ دجملے فعلیے اول اور دویم جز خورہ نومونہ دی؟

شاگرد:۔ دوہ نومونہ دی۔ فعل او مسند اور دویم جز ہم دوہ نومونہ دی۔

فاعل او مسند الیہ۔

==

دمطالعے کولو طریقہ:۔ ہرکے چہ اجزاء طریقہ معلومہ شرہ۔ او اجراء دے ہم ہنچے

طریقہ سرہ اوکرہ۔ نو اوس د طالب علم د پارہ د صحیح او کلیکے مطالعے کولو د پارہ پنجاگانہ

حول ضروری دی۔

ا۔ داسم، فعل او حرف پیش بندل۔ (دے د پارہ چہ داسم فعل حرف علامات یاد کوی۔)

- ۲۔ دم عرب اور مبنی پیژند گلی کیل، (دمے دپارہ دم عرب مبنی درس سنہ یاد کرے)
- ۳۔ د عامل اور معمول پیژند گلی کرل، (دمے دپارہ بحث دعلومو ذہن کئے کنبینوی)
- (۴)۔ د الفاظو خپلو کئے یر بدل سرہ تعلق معلومول،
- ۵۔ د الفاظو لغوی معنی معلومول، (بیا با محاورہ ترکیبی ترجمہ کرل اور صحیح مفہوم او مطلب زاو) <sup>بستل</sup>

### د خلو و او پنعم لمبر خبر و وضاحت

د الفاظو خپلو کئے تعلق او جو ربت تہ ترکیب والی۔ بیا د هر ترکیب یو یو نوم وی حکم چہ کلہ دوہ یاد دور نہ زیاتے کلے پہ خپلو کئے جو ربت او خوری لو دھقوے یو نوے نوم پیداشی۔ لکہ حکم چہ دیو سرہ انجن نسبتی وی نو دھقہ نوم وی ریل گادے، اوبہ، پتہ او پی چہ خپلو کئے ملاوشی نو ہفے تہ چائے والی۔ دغہ شان کلہ چہ دوہ یا دوو نہ زبنا الفاظو خپلو کئے جو ربت او خوری نو ہفے تہ ترکیب والی۔ د هر ترکیب خہ نہ خہ نوم ضرور وی مثلاً دیر ترکیب نوم ترکیب اضافی وی، او دبل ترکیب نوم ترکیب قرصیقی وی۔

بندہ د اللہ پہ فضل او کرم سرہ پہ عربی ژبہ کئے زیات استعمالیدونکی تراکیبو، (مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت، معطوف معطوف علیہ وغیرہ) علامات اود لو یو ترکیبو حل لیکے دے۔ حہ پہ ذہن کئے کینوی۔ انشاء اللہ! تاسو تہ بہ دغہ ترکیبو نو باندے پوہید لو کئے کافی امداد ملاوشی۔ باقی پاتے شوہ د الفاظو لغوی معنی د معلومولو مسئلہ نزد ہفے ترتیب دادے۔ چہ دہولو نہ مخکے دیو لفظ معنی پہ عبارت کئے دحل کرلو کوشش کوئی۔ حکم چہ د بعضو الفاظو معنی دومرہ اسانے اوظاہرے وی چہ ہفہ بالکل تاسو پہ اول کتلوسرہ پیژند لے شی، او کچرہ د یو لفظ معنی پہ عبارت کئے حل نہ شوہ۔ نو بین السطور لے اوکوری۔ حکم چہ عام طور سہ شکل الفاظو معنی پہ اسانہ عربی یا فارسی ژبہ کئے ہیں السطور لیکے شوی وی۔ مثلاً د قدوری : صلا باندے۔ کالا شربۃ والنخل والمرق وماء الباقلاء وماء الورد <sup>کلاب</sup> وماء الذرذخ <sup>کلاب</sup> دخلوب لفظو (خل، مرق، ورد <sup>کلاب</sup>، زردج) معنی دکرنبے لاندے لیکے شوی دی۔ لہذا ددے معنی معلومولو دپارہ د لغت کتلو ضرورت نشتہ۔ او د بعضو الفاظو معنی محتاج الی التفصیل وی نو ہفہ پہ حاشیہ کئے لیکے کینی۔ لکہ، قدوری (کتاب اندیات) مسئلہ باندے دلسوز خپلو نو مینہ ذکر کری۔ او د دغہ زخمونہ معنی لے پہ حاشیہ کئے۔ تفصیل سرہ ذکر کری۔ کچرہ د یو لفظ معنی بین السطور کئے ہم ذکر نہ وی او حاشیہ بچہ ہم نہ وی۔ نہ بیا تاسو دے معنی د لغت پہ لکے مصباح اللغات، یا المنجد وغیرہ کئے اوکوری۔

مثلاً د قدومیٰ پہ عبارت کہنے صلاً باندے د ماہ لیا قلاء لفظ دے۔ نو اوس تہ د باقلاء پہ معنی نہ پڑھیزی۔ نو اوس د دے معنی د لغت پہ یو کتاب کہنے د (ب) پہ تختی کہنے اوگری۔ نو ہلتہ کہنے بہ تاسوتہ د باقلاء معنی ملاؤشی۔ او صفدہ لوبیا۔ دیو لفظ معنی پہ لغت کہنے دکتلو طریقہ پہ تفصل سرہ پہ عبارت کہنے د تکرار کولو یو انداز کہنے لیکلے شوبے دہ۔ ہلتہ کہنے اوگری۔ لو کہ چرے د مکمل کوشش کولو باوجود ہم دیو لفظ معنی یا مقام حل نہ شو۔ نو دیرے خبرہ نہ دہ۔ سحرچہ کلہ استاذ صاحب راشی۔ نو سبقت پورے توجہ سرہ واپوری او پہ حق مقام کہنے خاص قوجہ اوساتی۔ د اللہ تعالیٰ پہ فضل سنہ بہ مستاسو معنی مقصد ہم حل شی۔

د غلط فہمی ازالہ: - زما عزیزانوطالبانو! شیطان پہ مطالعہ کہنے غلط وہم اچری چہ ما کتاب لوکتلو اوسیح یو خبرہ مے ذہن تہ راقلہ۔ زما عزیزہ! داستا کسر نفی دہ۔ گنی اللہ تعالیٰ پہ تاکہنے دیر لوئے صلاحیت ایمنودے دے۔ زما دوراندے یو طالب علم دغہ شان خبرہ اوکے۔ مافراً د عربی کتاب پرائستلو اومخ تہ مے کینبودلو۔ (ففرض للطہارہ... الخ)

ماترینہ تپوس لوکے۔ چہ پہ دے کرینہ کہنے قاتہ د فرض معنی درخی۔ طالب علم اوویل؛ ہرجی!۔ د طہارت معنی درخی؟ وے ویل ہوچی! وائی۔ دغہ شان د مکمل لاین د الفاظو معنی بے بیان کرے۔ ماہر تہ اوویل چہ تاخو ویل؛ چہ ماتہ ہیچ نہ راجی۔ دا پورے کرینہ بغیر د مطالعے نہ تا حل کرلہ کہ چرے مطالعے نہ پس د اورولے نو تا بہ پورہ صفحہ حل کرے وہ۔

پہ ہر حال زما عزیزہ! پہ ابتداء کہنے د استاذ او د طالب علم پہ مطالعہ کہنے غہ نہ غہ فرق ضروری۔ لیکن خنکہ چہ موبن د بعضے استاذانو نہ اورید لی دی چہ کلہ یو طالب علم د تعلیم سلسلہ شروع کوی۔ نو استاذ او شاگرد پہ میخ کہنے نسبت د تباہن وی۔ یعنی استاذ محترم د کتاب د مطالعے نہ چہ غہ حاصلوی۔ ہر طالب علم بالکل نہ شی حاصلوی۔ لیکن کلہ چہ طالب علم محنت کوی۔ د لوٹلے شری سبق پابندی سرہ تکرار او د آئندہ سبق مطالعہ کوی۔ نو بیا د استاذ او شاگرد پہ میخ کہنے نسبت د عموم او خصوص من وجہ پیدا شی بیا یو روح دا ہے راشی چہ استاذ او شاگرد دواہہ پہ مادہ اجتماعی کہنے جمع شی۔ یعنی کوم مفہوم چہ استاذ محترم د عبارت نہ اخذ کوی نو ہم ہر مفہوم بیا طالب علم د اللہ تعالیٰ پہ فضل سرہ اخذ کوی۔

داخبرہ ہم یادہ ساتی۔ چہ اللہ تعالیٰ داخلاص محنت کلہم حبیب نہ کرکوی  
 بلکہ ضرور دہے صلہ ورکوی۔ پہ دے وجہ بہ حضرت استاذ المکرم مولانا قاضی عزیز اللہ صاحب  
 رحمہ اللہ دسبقت دوران کہنے دیوطالب علم واقعہ بیانولہ۔ چہ یوطالب علم انتہائی غیبی وں ہفتہ  
 تہ سبق کہنے دانہ معلومیدہ۔ چہ سبق بہ کوم حائے نہ وایر۔ لہذا دسبق پہ حائے بالکہ بہ  
 لے ننبہ اینبود لے وہ۔ دہفتہ نخبنے پہ دریغ سرہ بہ لے سبق معلومولو۔ طالبان بہ  
 ہفتہ سرہ ہرقے کولے۔ او دسبق دخلے نہ بہ لے ہفتہ ننبہ لرسہ کرلے۔ او پختہ شپن پانچے روتہ  
 بہ لے کینبود لہ۔ سحر بہ داستاذ پہ خدمت کہنے حاضر شو۔ اوچہ کوم حائے بہ ننبہ پرتہ وہ  
 ہم ہفتہ حائے نہ بہ لے سبق شروع کولے۔ استاذ بہ روتہ اوویکل چہ داسبق خوتایورہ ہفتہ  
 مخکنے ویلے وو۔ ہفتہ طالب علم بہ روتہ اوویکل چہ استاذ جی! زما دسبق نخبنے دلہ کہنے دہ۔  
 لہذا ماتہ ہمدے حائے نہ سبق اووایہ! حضرت استاذ جی ہم دیر شفیق او مہربان وو،  
 ہفتہ پہ ہم ہفتہ حائے نہ روتہ سبق شروع کرلے۔ اوکلہ بہ طالبان ورتہ دسبق ننبہ دخپیل  
 حائے نہ ورائدے کینبود لہ۔ فر حضرت استاذ صاحب پہ دشفقہ دپارہ ہم دہفتہ ننبہ مطابقت  
 ورتہ سبق ویلو۔ لیکن ہ محبت لے دا حال وو۔ چہ بعض اوقات پہ لے قولہ شپہ کتاب پہ  
 لاس کہنے نیولے وو او مطالعہ بہ لے کولے۔ آخر اللہ تعالیٰ پہ ہفتہ یاندے داسے فضل او مہربانی  
 اوکرلے چہ ہفتہ بہ کائنات پہ شرح جامی پرتہ سبقونہ لوستل۔ او ہفتہ پوسے چہ کومو طالبان  
 خندا کرے وہ ہفتہ بہ خاروی شروع۔

د مطالعے کولو مشق :- شاگرد ۱۔ استاذ جی! دیر پریشانم۔ د صرف اونحو مختلف

کتابونہ ہ ار لوستل۔ لیکن اوسہ پوسے د مطالعے کولو او د کتاب کتو طریقہ باند نہ پوسیرم۔

استاذ ۱۔ زما عزیزہ! د عربی یو کتاب داخل چہ زہ قاتہ د مطالعے کولو طریقہ اوسنام۔

شاگرد ۱۔ استاذ جی! داد قدوری کتاب دے۔

استاذ ۱۔ کتاب کھلاؤ کرہ او یوباب د شروع نہ او یاسہ!

شاگرد ۱۔ استاذ جی! ما قدوری کھلاؤ کرے دے، او د اباب د سجود التلاوت دے۔

استاذ ۱۔ د دے باب د شروع نہ عبارت اووایہ!

شاگرد ۱۔ فی القرآن اربعۃ عشر سجدة

استاذ ۱۔ قہ بہ پہ دوران د مطالعے کہنے پنجہ کارونہ کرے۔ قولنہ مخکنے اسم، فعل او حرف

دیوبدل نہ جدا کرے۔

لام پر داخل دے

شاگرد ۱۔ پہ دے عبارت کہنے فی حرف دے، القرآن اسم دے۔ خد

اربعۃ عشر۔ اسم دے۔ حُکَہ پہ دے کہے تنوین مقدر دے۔ حُکَہ پہ دا پہ اصل کہے اربعۃ  
وَمَشْرُوعٌ وو۔ او سجدۃ ہم اسم دے۔ حُکَہ پہ دے کہے تنوین دے۔ او دے  
عبارت کہے فعل نشئت۔

استاذ :- اوس د معرب او مبنی شناخت او کہے ؟

شاگرد :- فی مبنی الاصل دے۔ حُکَہ پہ حرف دے، القرآن معرب دے حُکَہ پہ اسم متمکن  
ترکیب کہے واقع شوے دے۔ اربعۃ عشر مبنی دے۔ حُکَہ پہ مرکب بنائی دے، او  
سجدۃ معرب دے۔ حُکَہ پہ اسم متمکن ترکیب کہے واقع شوے دے۔

استاذ :- اوس د عامل او معمول شناخت او کہے ؟

شاگرد :- فی عامل دے او داد جر والا عمل کری۔ یعنی خپل مدخول تہ جر و رکوی او القرآن  
معمول دے حُکَہ چاہدہ د جر والا عمل موجود شوے دے۔ اربعۃ عشر عامل  
ہم دے۔ حُکَہ پہ اسماء عاملہ کہے اسم تام دے۔ او پہ تنوین مقدر سرہ تام دے  
او دے خپل تمیز تہ نصب و رکوی (تعریف د اسم تام دادے پہ اسم تام ہر ہذا اسم تہ و علی  
شی پہ د ہذا پہ آخر کہے دائیہ یو حالت لاحق وی۔ پہ د د ہذا حالت پہ موجودگی کہے ہذا  
بل اسم تہ نہ شی مضاف کیے او دا پہ پنھنؤ خیزونو سرہ تام کرئی) او د ہذا شان اربعۃ  
عشر معمول ہم دے۔ حُکَہ پہ دا مبتداء مؤخرہ دے۔ او پہ دے کہے عامل ابتداء دے۔  
سجدۃ معمول دے حُکَہ پہ دا تمیز واقع شوے دے۔

استاذ :- د الفاظ پہ خپلو کہے تعلق او ترکیب معلوم کرے ؟

شاگرد :- فی القرآن خبر مقدم دے۔ حُکَہ پہ موزنہ د جملے اسمیے پہ علامات تو کہے لوستلی وو  
چہ د کلام پہ شروع کہے جار مجرور راضی نو ہذا بہ خبر مقدم وی۔ او اربعۃ عشر  
اسم عد میہم ممیز ناصب التمیز دے او سجدۃ لے تمیز دے۔ ممیز سرہ د خپل تمیز تہ  
مبتداء مؤخرہ۔ مبتداء سرہ د خپل خبر نہ جملہ اسمیہ خبریہ شوے۔ او دے سرہ مسند او  
مسند الیہ ہم معلوم شو۔ پہ فی القرآن خبر مسند دے او اربعۃ عشر سجدۃ مبتداء مسند  
الیہ دے۔

استاذ :- اوس د دے معنی معلوم کرے ؟

شاگرد :- معنی د (فی، دے، کہے)، د قرآن معنی خو ظاہرہ دے۔ اربعۃ معنی دہ خلوص،  
او د مَشْرُوعٌ معنی دہ (نشر) پہ لشی او خلوص یو حالت شی نو خوار لشی شو۔ او د  
سجدۃ معنی ہم سجدہ دے۔

استاذ :- تادہ ہر یوں لفظ جدا جدا معنی معلومہ شوہ۔ اوس روانہ بامحاورہ ترجمہ اوکری  
 شاہکرد :- پہ قرآن پاک کئے خوارنگل سجدے د تلاوت دی ۔  
 استاذ :- زما عزیزہ ! ہر کلمہ چہ تا ترکیب ہم اوکریہ او معنی دے ہم او پیڑندہ۔ نوڈ  
 نحو لوستلو مقصد پورے شو۔ م پر دے اندازہ یاندہ دہر کتاب مطالعہ کوہ۔ او خیل  
 منزل طر تروان اوسین ی ۔

ہر کلمہ چہ مقصد تہ اور سیدے او دورہ حدیث نہ فارغ شوے۔ نوبیا د اللہ  
 تعالیٰ د دین خدمت کول خیل اصل مقصد اوکری حویٰ۔ کوم خائے کئے چہ د دینی خدمت موقع  
 ملاوین ی۔ نوڈ اللہ پاک راضی کولو د پارہ بنہ پہ اخلاص سرہ د اللہ پاک د دین خدمت کوی۔  
 شاہکرد :- استاذ جی ! زہ بہ تہول عمر متاسو احسان ہیر نہ کرم۔ حکمہ چہ مخکئے بہ ما  
 کتاب پرانستلو نو تہول ہر خہ بہ تیارہ تیارہ دینکارہ کیدل۔ دوخت تیرولو د پارہ  
 بہ کلمہ ہر تہول تہ لاپم۔ او کلمہ بہ اخبار یا ناوول سے کتلو۔ لیکن کلمہ نہ چہ تاسو مانہ د مطالعہ  
 طریقہ او بنودل۔ نو د عہد و نیت نہ ماتہ د خیل درمی کتابونو د ہر یوں لفظ نہ نوہ پہ نظر  
 راجی۔ چہ عہد نوہ سرہ ہر وخت زما ذہن رو بنانہ وی، او زہا سے ہر وخت خوشحالہ  
 خوشحالہ وی۔ اوس کہ تاسو د مدرسے دروازے بند کری یا بند نہ کری۔ د مطالعہ د پارہ  
 کہ یر استاذ نگران مقرب کرے یا بے مقرر نہ کری۔ اوس ما کتاب سرہ دوستی جوہ کرے  
 دہ۔ اوس یہ ہمیشہ مطالعہ کوم۔ او د تعلیم پہ دوران کئے بہ د اردو شرحو کتو نہ خات  
 بیج ساتم، او دینی مسائل زدہ کولو کئے بہ کوشش کوم۔ او بیا د مرکہ پورے بہ د اللہ تعالیٰ  
 د دین خدمت کوم ۔

پہ آخر کئے د اللہ تعالیٰ پہ دربار کئے درخواست دے چہ اللہ تعالیٰ دے زمونز  
 پہ حوصلو او عزم استقلال کئے برکت و اچری۔ او اللہ تعالیٰ دے مومنز د خلوص پہ دلوت  
 سرہ مالا مال کری۔ آمین ۔

### فوائد متفرقہ

۰ - س :- د اعلامہ داستیناف مخفقہ دہ۔ او داد نوے خبرے د شروع کیدو

علامہ دہ

۰ - ع - عطا :- د اعلامہ د عطف دہ۔

۰ - م - ص :- داد مفعول بہ غیر صریح یا د متعلق علائحہ او نئے دی ۔

حک کہ جار مجرور و ماقبل فعل یا مشبہ فعل و پار مفعول بہ گرجی۔ لیکن غیر صریح حک کہ  
چہ بواسطے حرف جر سرہ دی۔ لہذا دانہ چہ یہ کوم جار مجرور باندے وی۔ نو  
ہف بہ متعلق وی۔ او کہ چہ ماقبل فعل یا مشبہ فعل باندے وی نو ہف بہ متعلق وی۔  
۵۔ دحاشیہ پہ آخر کئے یاد یو لفظ پہ آخر کئے عدد (۱۲) لیکلے شوی وی۔ دادخبر  
ختمیدو علامہ دہ۔ حک کہ دا عدد (۱۲) لفظ حد نہ مأخوذ دے۔ اوح نہ داتو۔  
عدد او د نہ دخول د عدد خارج دے۔ نو دحد معنی دہ انتہا۔ نو دے نہ چہ کوم  
عدد خارج شی ہف بہ ہم دانتہا پہ معنی باندے دلالت کوی۔

۵:۔ د مبالغہ حشر مرہ صیغے دی ہف پہ حکم د اسم فاعل کئے دی۔

۱۵۔ حال پہ مشبہ قسمہ دے :

۱۔ حال مؤکدہ :-۔ چہ حال دخول ذوالحال نہ اکثر جدا نہ وی، لکہ: زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا.

۲۔ حال منتقلہ :-۔ چہ حال دخول ذوالحال نہ اکثر جدا وی، لکہ :- جَاءَنِي زَيْدٌ رَاكِبًا.

۳۔ حال مترادف :-۔ چہ دیو ذوالحال نہ دوہ حال وی۔ لکہ :- جَاءَنِي زَيْدٌ أَرَاكِبًا ضَاكِبًا.

۴۔ حال متداخلہ :-۔ چہ ماقبل حال د ضمیر نہ حال واقع وی، لکہ: جَاءَنِي زَيْدٌ رَاكِبًا.

۱۵۔ حال محققہ :-۔ چہ حال ذوالحال د پار ذوالحال ثابت وی، لکہ: جَاءَنِي زَيْدٌ رَاكِبًا.

۶۔ حال مقدّرہ :-۔ چہ حال ذوالحال د پار پہ آئندہ زمانہ کئے ثابت وی۔ او ذوالحال د ہف

نصیر لو کرے شی۔ لکہ :- فَادْخُلُوا مَا خَالِدِينَ .

ہرہ جمع ماسوا د جمع مؤنث سالم نہ پہ تاویل د جماعہ سرہ پہ حکم د واحد

مؤنث کئے وی۔

۵ :-۔ حشر مرہ اسماء مشتقہ چہ دی کہ چہ دا خیل ماقبل د پار خال یا صفت وغیرہ

گرچہ دی وی نو پہ دوی کئے عامک ضروری دے۔ چہ ہف ماقبل ذوالحال یا موصوف وغیرہ

نہ راجع وی۔

۵ :-۔ فرق پہ مینج د فاعل او اسم فاعل کئے :-۔

اسم فاعل ہف دے چہ پہ ذات مع الوصف دلالت اوکری۔ او فاعل ہف دے

چہ ہف صرف پہ ذات دلالت لوکری۔ اسم فاعل ہمیشہ د پار مشتق وی۔ او فاعل کلامتی

وی او کلام جامد وی۔ او ہذا فرق پہ اسم مفعول او مفعول کئے ہم دے۔

۵ :-۔ واو صرف :-۔ دا ہف واو دے چہ د ہف د مابعد عطف د ہف پہ ماقبل باندے

لوکری نو مقصد حاصل نہ شی۔

۵ :- دکومر الفاظوپہ ترجمہ کیجئے کہ د اسم مفعول والا معنی وی - نوزہ مجہول لوستل بہتر دی - اگر کہ دھفہ فاعل معلوم وی . لکہ ایستہت - یکرہ -

شبیہ جملہ :- اسم فاعل ، اسم تفضیل ، صفت مشبہ اوصیغہ د مبالغہ چہ خیل فاعل سرہ ملاؤ شی یا اسم مفعول خیل نائب فاعل سرہ ملاؤ شی نودے نہ شبہ جملہ جو رہی اود مرکب غیر مفید پہ شان ہمیشہ دپارہ جزد د جملے وی -

۶ :- د شرط او جزاء پہ میخ کجئے چہ جملہ فعلیہ وی او د جملے فعلیہ پہ ابتداء کجئے قد مع الواؤ وی - نوزہ بہ حال واقع کیزی . لکہ : فَلَمَّا بَلَغَ الْكُوفَةَ مَاتَ اَوْ سَرَقَتْ نَفَقَةٌ وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ يَحُجُّ عَنِ الْمَيْتِ . (ہدایہ ص ۱۸۸)

۷ :- چہ یو اسم مبتداء وی اوزہ نہ پس دوہ جار مجرور راشی - نو پہ بعضو مقاماتو کجئے اول لوق حال او دویم جار مجرور لرہ خبر گرحوئے شی - لکہ :- فَالِ لَفْظِيَّةٌ مِنْهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ سَمَاعِيَّةٌ وَقِيَاسِيَّةٌ پہ کلام کجئے چہ دیو فعل اول کجئے نفی شوئے وی او بیا دوبارہ دغہ فعل نفی کول غواہی نود « لا » نہ پس فعل بہ حذف کولے شی - او دغہ لاتہ بہ لا - نَاضِيَةُ الْفِعْلِ وَيُلِي شَيْءٌ - لکہ : وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمِّهِ وَلَا بِجِدَّتَيْهِ مِنْ قَبْلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَا بِبَنَاتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ وُلْدِهِ .

۸ :- کک : دالفظ د کذالک مخفف دے - ددے معنی دہ « دغہ شان »

۹ :- لفظ د سبحان چہ کوم حائے استعمال شوئے دے نودا مفعول مطلق کجی - فعل محذوف سَبَّحْتُ ، سَبَّحْتَنِي ، سَبَّحْتُمْ ، سَبَّحْتُمْ لِي ، سَبَّحْتُمْ لِي .

۱۰ :- فرق پہ میخ دلام او لام امر کجئے دادے چہ دعویٰ نہ پس پہ مقام د دلیل کجئے لام کی راجحی کہ چہ مانہ پس لکد راشی - نوزہ اکثر پہ معنی د مادام کجئے وی - (خوہد) لکہ مَالَهُ تَعَرُّبٌ .

۱۱ :- لفظ د ایضاً ہمیشہ دپارہ مفعول مطلق وی فعل محذوف أَضَى دپارہ - او پہ ترکیبی لحاظ سرہ ددے دما قبل او ما بعد سرہ هَيْجُ تعلق نہ وی -

۱۲ :- اَمَّا - کہ چرے دے نہ پس اَمَّا وی یا اَوْ وی - نوزہ بہ اَمَّا لوستلے کیزی - او کہ چرے ہجے نہ پس « فادہ » وی - نو بیا بہ اَمَّا لوستلے کیزی .

## تراکیب غریبہ

- ★ مَنْ قَالَ قَالَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ - دَرِيم - قَالَ قِيلُولِي (دفرہ وخت کئے ارام کول) نہ مشتق دے .  
 ★ قَالَ زَيْدٌ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، انْتَقَضَ وَضُوءُهُ - دَا قَالَ هَمْ دَقِيلُولِي نہ مشتق دے .  
 ★ النَّارُ فِي الشَّيْءِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ - دلته کئے دا من قسمیہ دے  
 ★ أَنَا زَيْدٌ كَرِيمٌ - أَنَا مُشْتَقٌّ دَسْ دَ اِنْبِي (لہا) نہ اوکاف مثلید دے ، او دَرِيمِ  
 معنی دے د ہوسنی ہے .

- ★ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَمُوسَىٰ فِي الشَّارِ ، (اے رب موسیٰ) واو قسمیہ دے .  
 ★ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ مَكْرُوهَةٌ - النَّبِيُّ بِمَعْنَى الطَّرِيقِ -  
 ★ رَأَيْتُ كَافِرًا فِي كَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ يَمْتَلُ كَافِرًا .  
 ★ بَطْنٌ كَبِيرٌ - كَبِيرٌ كَبِيرٌ - <sup>تور اس اولنی کبیر د سہری نوم دے ، دویم کبیر</sup>  
 دصفا مشبہ صیغہ دہ او دریم کبیر پہ اصل کئے کبیر وو .  
 ★ رَأَيْتُ الْكَلْبَ فِي الْكَلْبِ يَا كَلْبُ يَا كَلْبُ وَذَلِكَ الْكَلْبُ فِي الْكَلْبِ كَلْبًا  
<sup>پہی</sup> <sup>تورہ کونہ</sup> <sup>ماہی</sup> <sup>ماہی</sup> <sup>تاریکی</sup> <sup>او بیجان</sup>

عليه التمام - فالحمد لله ذي الانعام - الموفق للإتمام والصلوة  
 والسلام على رسوله محمد خير الأنام ، وعلى آله  
 الكرام والصحابه العظام .  
 ما تعاقبت الليالي والأيام .  
 تمت بالخير .

الصفات قبل علم الخبار  
 والخبار بعد علم اوصاف

## د اهل علم و فضيلت

د امير المؤمنين حضرت علي كرم الله وجهه بن ابي طالب ارشادات :  
الناس من جهة التمثال اكفاءه .: .: ابوهه ادم و الاك حواء  
په شكل او صوره كېه قول خلق يوشان دى حكيم د تولو پلار آدم عليه السلام او مود

بى بى حواء ده

لَفْسٌ كَتَفْسٍ و ارواحٌ مُشَاكِلَةٌ .: .: وَاَعْظَمُ خُلِقَتْ فِيهِمْ وَاَعْضَاءُ  
په تولو كېه يوشان روح دى او روحونه هم مشابه دى۔ په تولو كېه هډوكى او جوړونه (بنډو) دى۔  
هَفِيانٌ يَكُنُّ لَّهُمْ مِّنْ اَصْلِهِمْ حَسَبٌ .: .: يُفَاخِرُونَ بِهٖ فَاَطِيْنُ و السَّمَاءُ  
انسانا كه هره په خپل اصليت باند و غر كوي ، نو اصليت د تولو ختمه او او به دى ۔  
مَا الْفَضْلُ اِلَّا لِاَهْلِ الْعِلْمِ اِنَّهُمْ .: .: عَلَى الْهَدْيِ لِيَمِّنَ اسْتَهْدَى اِدْلَاءُ  
فضيلت خرمرف اهل علموته حاصل دى او هډوكى د هدايت طلب كوونكو دپاره لاره نښوونكى دى۔  
وَقَدْ رُكِّبُ مُرَكَّبًا مَا كَانَ يُحْسِنُهُ .: .: وَلِلرَّجَالِ عَلَى الْاَفْعَالِ اَسْمَاءُ  
دسره مقام هغه هډوكى په كوم كېه دى او خاص هنر سړى لږه اعلى مقام وركوي۔  
وَضِدُّ كُلِّ اَمْرٍ مَّا كَانَ يَكْمَلُهُ .: .: وَاَلْجَاهِلُونَ لِاَهْلِ الْعِلْمِ اَعْدَاءُ  
انسان په كوم خيز باند دى نه پوهيزى نو د هغه خيز مخالف وي په كوم جاهد خلق د علماء  
د دشمنان دى ۔

## دوره حل عبارت

د الله تعالى په فضل او كرم سره جامعه محمدية كېه د « دوره حل عبارت » شروع د  
شعبان المعظم په مياشت كېه د وفاق المدارس د امتحانانو نه پس فوراً كېږي ۔ يعنى  
امتحانات كېه د زيارت په وړخ ختم شى نو د هغه دوره نه به د دوره آغاز كېږي  
او دا سلسله به تر اته ويستم شعبان پورې جارى وي ۔

په دې دوره كېه د شركت خوا هم متحد طالبانوته درخواست دى په هغه دى دى  
د اولو وړخ نه په دوره كېه د شركت كولو كېه شى او كېه ۔ حكيم په دې مختصره دوره  
كېه د هر اولو سبق دروستى سبق سره ربط وي ۔ لهذا په دوره كېه د ابتداء نه شركت كولد  
تولو سبقونو په مينځ كېه د ربط او تعلق ساتلو ذريعه به جوړه شى ۔

ابتدائى استاذانو سره د صرف او نحو او نور ابتدائى كتابونو د تعليم طريقه كار باره

کئے مذاکرہ، مشورہ اور تکرار بہ درمضان المبارک پہ اولہ عشرہ کئے کیں ی (انشاء اللہ  
او کہ چرے یو استاذ محترم سر پہ اولہ عشرہ کئے فرصت نہ وی۔ نو ہفتہ دے دخط پہ  
ذریعے سرہ مونیہ تہ اطلاع را کری۔ انشاء اللہ ہفتہ د پارہ بہ د مذاکرے بیل وخت  
مقرر وے شی۔ (جامعہ محمدیہ۔ لیک روڈ ننگ چوہرچی لاہور)

## د ادارے نور کتابونہ

الصرف الکامل ۱۔

د صرف یو مکمل کتاب دے۔ چہ دے کئے د صرف ضروری قوانین او ابواب د پر پہ  
تفصیل سرہ پہ آسان انداز کئے جمع کرے شوی دی۔

الترکیب الکامل (شرح مائتہ عامل) :-

تألیف حضرت مولانا قاضی عزیز اللہ صاحب قدس سرہ د شرح مائتہ عامل  
د نوع اول یوہ بہترینہ شرحہ دے۔ چہ دے کئے د نوع اول ترکیب سرہ د ضروری فائدونہ د پر  
پہ منگی انداز کئے بیان شوی دے۔

الترکیب الکامل (لنظم مائتہ عامل) :-

تألیف حضرت مولانا قاضی عزیز اللہ صاحب قدس سرہ د نحو میر پہ آخر کئے د  
نظم مائتہ عامل یوہ اعلیٰ شرحہ دے۔ چہ دے کئے د نحو د پر مسائلک بیان شوی دی۔  
الصرف العزیز :-

تألیف مولانا محمد حسن صاحب (استاذ جامعہ محمدیہ چوہرچی، لاہور) دا د علم صرفیہ  
نوی او عجیبہ طرز بانڈے لیکلے شوی کتاب دے۔ چہ پہ دے کئے د دے جوے خیال سائے شوی  
دے چہ د طالبان وخت کم صرف شی او فائدہ ورتہ زیادتہ حاصلہ شی۔

ادارہ محمدیہ لیک روڈ ننگ

چوہرچی۔ لاہور

مَا سَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

لهذه الله والله كتاب نافع طائر مشتمل برؤس النسخه

موسومه

# العلامات النحويه

## حل تراكييب العربيه

تأليف

ابعد الضعيف محمد حسن عفي القدعت وعافاه  
فاشل با معاشر فيلا نور واستاد جامع محمدية كيك روز لا نور

بيسته ترجمه

ابعد الضعيف مولانا اكرم العدي القدعت ومن العدين  
فاشل با معاشر ادر العلوم شيا وصدرا فاشل افاق المدارس (مكتان)

مکتبہ رحمانیہ

0336-3100065

# مکتبہ رحمانیہ

محلہ جنگلی عقب قصہ خولی بازار پشاور موبائل 0336-3100065

